

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا

الذي كنا لننالوه


1717

جُد حقوق محفوظ ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

عمر

ابوبکر



حسب اجازت

الحاج سید غلام حبیب شاہ سجادہ نشین درجہ شریف
آستانہ غوثیہ

59632

ناشر: صوفی گل محمد - در چھ شریف

مطبع: الملک پرنسنگ پریس - لاہور

تعداد:



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ جَلَّ جَلَالُهُ

وہ اللہ ہے جس کو سوائے بندگی نہیں کسی کے اے بہت بخشنے والے بڑی ہیبت شان اس کی

الرَّحِیْمُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمَلِیْکُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

بہت مہربان بڑی ہیبت شان اس کی	بادشاہ ظاہر باطن کے بلند کھمان کی	بہت پاک بزرگ ہے بزرگی اس کی
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُهَيْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

سلام رکھنے والے بڑی ہیبت شان اس کی	امن دینے والے بڑی ہیبت شان اس کی	نگہبان بڑی ہیبت شان اس کی
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------

الْعَزِیْزُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

غالب ہے مانند بڑی ہیبت شان اس کی	نقصان پہنچانے والے بڑی ہیبت شان اس کی	بزرگ ہے مانند بڑی ہیبت شان اس کی
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

الْمُخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْبَارِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ
پیدا کرنے والے سب چیز کے بڑی شان اسکی	پیدا کرنے والے خلق کے بڑی شان اسکی	صورت بنا لینے والے خلق کے بڑی شان اسکی
الْعَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْوَهَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ
بخشنے والے گناہ کے بڑی شان اسکی	غالب کے چیز پر بڑی شان اسکی	بہت دینے والے غیر خواجگ بڑی شان اسکی
الرِّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ
رزق دینے والے بڑی شان اسکی	کھولنے والے کاموں کے بڑی شان اسکی	جاننے والے ہر چیز کے بڑی شان اسکی
الْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهُ
تنگ کرنے والے رزق کے بڑی شان اسکی	کھولنے والے رزق کے بندوں کے الخ	پست کرنے والے بڑی شان اسکی
الرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُدِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ
بلند کرنے والے رزق کے بندوں کے الخ	عز دینے والے بڑی شان اسکی	خوار کرنے والے بڑی شان اسکی
السَّمِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْحَكْمُ جَلَّ جَلَالُهُ
سبک سننے والے بڑی شان اسکی	دیکھنے والے بڑی شان اسکی	حکم کرنے والے بڑی شان اسکی
الْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ	اللطيف جَلَّ جَلَالُهُ	الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ
عدل کرنے والے بندوں کے الخ	بارکبہ بین دور بڑی شان اسکی	خبردار ہر چیز بڑی شان اسکی

الْحَلِيمُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْعَظِيمُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْغَوْرُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ
بڑی بڑی کرنے والے بڑی شان ہے اسکی	بزرگ تر ذات صفت میں	بخشنے والے بڑی شان ہے اسکی
الشَّكُورُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْعَلِيُّ جَلِيلٌ	الْكَبِيرُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ
قدوان شکر کرنے والے کے الخ	بلند مرتبہ بڑی شان ہے اسکی	بڑے سب بڑی شان ہے اسکی
الْحَمِيْظُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْمَقِيْتُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْحَسِيْبُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ
نگاہ رکھنے والے خلق کے بڑی شان ہے اسکی	قوت دینے والے بڑی شان ہے اسکی	حاجت مہیا کرنے والے بڑی شان ہے اسکی
الْمَجْلِيْلُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْكِرِيْمُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الرَّقِيْبُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ
بزرگ قدر ہے پر بڑی شان ہے اسکی	بخشنش کرنے والے بڑی شان ہے اسکی	نگاہ رکھنے والے خلق کے الخ
الْمَجِيْبُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْوَاسِعُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْحَكِيْمُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ
قبول کرنے والے دعا کے الخ	وسعت دینے والے بڑی شان ہے اسکی	سوار کار اور درست گفتار الخ
الْوَدُوْدُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْمَجِيْدُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْبَاعِثُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ
بہت دوست رکھنے والے الخ	بزرگ، بڑی شان ہے اسکی	اٹھانے والے بڑی شان ہے اسکی
السَّهِيْدُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْحَقُّ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ	الْوَكِيْلُ وَرَجُلٌ جَلِيلٌ
حاضر بڑی شان ہے اسکی	ثابت - بڑی شان ہے اسکی	کارساز بڑی شان ہے اسکی

الْقَوِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُتَيْنُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْوَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ
قوت دینے والے بڑی شان کی	مضبوط بڑی ہے شان اس کی	دوست مومنوں کے الخ
الْحَمِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُحْصِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُبْدِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ
تعریف کرنے والے ذات الہی کے الخ	احاطہ کرنے والے بڑی شان اس کی	پیدا کرنے والے بڑی شان اس کی
الْمُعِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُحْيِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُمِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ
پیدا کرنے والے دوسری بار الخ	زندہ کرنے والے بڑی ہے شان اس کی	مارنے والے بڑی ہے شان اس کی
الْحَيُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الْقَبِيومُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْوَالِدُ جَلَّ جَلَالُهُ
زندہ بڑی ہے شان اس کی	قائم رکھنے والے بڑی شان اس کی	غنی بے پڑا۔ بڑی ہے شان اس کی
الْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْوَالِدُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْوَاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ
صاحب بزرگ بڑی شان اس کی	یکتا ذات اپنی میں بڑی شان اس کی	ایک۔ بڑی ہے شان اس کی
الصَّادِقُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهُ
سچے بڑا۔ بڑی ہے شان اس کی	قوت والے ہر چیز بڑی شان اس کی	قدرت ظاہر کرنے والے الخ
الْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُؤَخِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْأَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهُ
آگے دینے والے رسولوں کے الخ	پیچھے ڈالنے والے دشمنوں کے	پہلے سب بڑی شان اس کی

الْآخِرُ جَلَّ جَدَلُهُ	الظَّاهِرُ جَلَّ جَدَلُهُ	الْبَاطِنُ جَلَّ جَدَلُهُ
پیچھے سے بڑی ہوشیارگی	ظاہر ساتھ صفوں اپنی کے الخ	پوشیدہ و ہم خیال سے الخ
الْوَالِيُّ جَلَّ جَدَلُهُ	الْمُعَالِيُّ جَلَّ جَدَلُهُ	الْبِرُّ جَلَّ جَدَلُهُ
مالک کار ساز بڑی ہوشیارگی	بہت بلند بڑی ہوشیارگی	نیکی کار بڑی ہوشیارگی
التَّوَّابُ جَلَّ جَدَلُهُ	الْمُسْتَقِيمُ جَلَّ جَدَلُهُ	الْعَفْوُ جَلَّ جَدَلُهُ
قبول کرنے والے توبہ کے بڑی ہوشیارگی	بدلہ لینے والے کافروں کے الخ	معاف کرنے والے بڑی ہوشیارگی
الرُّؤْفُ جَلَّ جَدَلُهُ	مَالِكُ الْمَلِكِ جَلَّ جَدَلُهُ	
مہربان بڑی ہوشیارگی	مالک دو جہان کے ، بڑی ہوشیارگی	
ذُو الْجَدَالِ وَالْاِكْرَامِ جَلَّ جَدَلُهُ	الْمُقْسِطُ جَلَّ جَدَلُهُ	
جس بڑی بخشش کے اور بزرگی کے۔ بڑی ہوشیارگی	انصاف کرنے والے بڑی ہوشیارگی	
الْجَامِعُ جَلَّ جَدَلُهُ	الْغَنِيُّ جَلَّ جَدَلُهُ	الْمُعْنِيُّ جَلَّ جَدَلُهُ
جمع کرنے والے لوگوں کی مسکن	بے پڑا بڑی ہوشیارگی	بے پروا کرنے والے الخ
الْمُعْطِيُّ جَلَّ جَدَلُهُ	الْمَانِعُ جَلَّ جَدَلُهُ	الضَّارُّ جَلَّ جَدَلُهُ
دینے والے بڑی ہوشیارگی	منع کرنے والے بڑی ہوشیارگی	ضرر پہنچانے والے بڑی ہوشیارگی

النَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ	النُّورُ رَجُلٌ جَلَالُهُ	الْهَادِي جَلَّ جَلَالُهُ
نفع پہنچانے والے بڑی شان اسکی	روشنی بخشنے والے بڑی شان اسکی	راہ دکھانے والے بڑی شان اسکی
الْبَدِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْبَاقِي جَلَّ جَلَالُهُ	الْوَارِثُ جَلَّ جَلَالُهُ
پیدا کرنے والے چیزوں کے نمونے کے	ہمیشہ رہنے والے بڑی شان اسکی	رہنے والے بعد فنا خلق کے
الرَّشِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ	الصَّبُورُ رَجُلٌ جَلَالُهُ	الَّذِي لَيْسَ
رہنما م کے بڑی شان اسکی	بڑو بار بڑی ہے شان اسکی	وہ ذات کہ نہیں
كَمَثَلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا		
اس کے مانند کوئی اور وہ ہے سننے والا دیکھنے والا تیری بخشش چاہیے اے بھارے		
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ	لِعَمَلِ الْمَوْلَى جَلَّ جَلَالُهُ	وَبِعَمَلِ النَّصِيرِ جَلَّ جَلَالُهُ
تجھی تک رجوع ہے الخ	کیا خوب عاقبتی ہے بڑی شان اسکی	اور کیا خوب مددگار ہے الخ
سَمِيعٌ جَلَّ جَلَالُهُ	بَصِيرٌ جَلَّ جَلَالُهُ	عَلِيمٌ جَلَّ جَلَالُهُ
سننے والا بڑی شان اسکی	دیکھنے والا بڑی شان اسکی	جاننے والا بڑی شان اسکی
قَدِيرٌ جَلَّ جَلَالُهُ	مُرِيدٌ جَلَّ جَلَالُهُ	مُنْكَرٌ جَلَّ جَلَالُهُ
قدرت والا بڑی شان اسکی	ارادے والا بڑی شان اسکی	کلام کرنے والا بڑی شان اسکی

هَذَا الدُّعَاءُ الْكَبِيرُ

یہ دُعا کبیر ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

لے زندہ جب کہ کوئی زندہ نہ ہوگا اپنی ہمیشگی

مُلْكِهِ يَا قَيُّوْمُ

بادشاہی اور بقا میں اے زندہ اے قائم

يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِیْمُ

اے اللہ لے بڑے مہربان لے نہایت رحم والے لے مالک

يَوْمِ الدِّیْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ

روزِ جزا کے ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے

نَسْتَعِينُ ۚ يَا حَيُّ ۚ يَا قَيُّوْمُ ۚ يَا اَللّٰهُ ۚ

يَا رَبُّ ۚ اُوَامِرُ ۚ هُوَا مُرُ ۚ رَهِيْنُ ۚ

نَسْرِيْنِ ۚ پَرِيْنِ ۚ اَسْبِي ۚ پَرْمُرُ ۚ هَنَسَا ۚ

اُوَامِرُ ۚ اَنْمُو ۚ مَجْرَانِيَّةُ ۚ مَلِيْكَةُ ۚ

اَمَلِيْكَةُ ۚ اَدَاْبُهُ ۚ اَمُهَابَةُ ۚ وَاَرِيْسَا ۚ

اَسْمَنُكَ ۚ فَجْرُ وَاَمْنُكَ ۚ وَاَشِيْكِي ۚ

وَاَرِي ۚ اَوْرِيَا ۚ اَمْرُهُو ۚ كَلَامَا ۚ

مُلُوكًا ۚ اَسْمِيْنَ ۚ اَشْجِيْنَ ۚ كَتَانَهٗ ۚ

بَهَانَهٗ ۚ مَهَابَهٗ ۚ هِيَهٗ ۚ دَرَنُكَهٗ ۚ

سَلَاكَهٗ ۚ وَسَلَكَهَاكَهٗ ۚ وَيَلَاكَاكَهٗ ۚ

وَتَلَكَهَاكَهٗ ۚ وَاَجَلٌ ۚ مِرَايَا ۚ خِرَايَا ۚ

هَمَايَا ۚ شَايَا ۚ وَنَشِيكَا ۚ وَنَشِيكِي ۚ

يَا دِرْبُوِيَا ۚ يَا دِرْمِي ۚ وَاَنَا هِيَا ۚ

وَمِنِّيَا ۚ يَا مَلِكِنَا ۚ شَمِيْنَهٗ ۚ كَهَهٗ ۚ

كَهْ هَمَّهْ هَمَّهْ مَتَّهْ وَتَهْ

كَتَهْ نَشْتَنَهْ شَنِينَهْ عَنِينَهْ

مُلَطَهْ وَطَهْ وَتَهِيَا حَيَايَا

مَطَايَا وَادِي يُوْدِي كِيْدِي

كِيْدِي فَشْكَايَا فَشْكَايَا بِمَطَايَهْ

مَرْنُكَ شَمِيْنِي مَلُوِي مَتَا

مَطَتَا مَضَا دِيُوَهْ اَخِيْشَهْ

شَنَكُهُ ۚ خِيكَ ۚ خِيكَ ۚ جَرَأُ ۚ جَرَأِيَا ۚ

اِكْرَأُ ۚ اِكْرَأِيَا ۚ بَرُ ۚ بَرَايَا ۚ مِرَايَا ۚ كِرَايَا ۚ

شَمَنِكِي ۚ فَجْرُ وِيَا ۚ شَمُهِيَا ۚ وَارِثِيَا ۚ

شُوبُهُ ۚ جَرِيَهُ ۚ وَمَنكَا ۚ خَزَنكَا ۚ

عَزَنكَا ۚ مَكَنكَا ۚ مَهَنَابُهُ ۚ دِيوَهُ ۚ

دِرِيَا ۚ شَنكَا ۚ فَشِكِينَا ۚ وَنَشِينَا ۚ

مَرِينَا ۚ عَمَنكَا ۚ شَمَنكَا ۚ كَمَنكَا ۚ

فَتَلِيحَهُ ۚ فَشَلِيحَهُ ۚ وَمَا طَلِي ۚ كَانِي ۚ

جُونِي ۚ جُرْنِي ۚ مَرُونًا ۚ ثَبُونًا ۚ لَوَسًا ۚ

مُقَدَّسًا ۚ سَرَأَسًا ۚ هِيرِيَا ۚ هَبْتَهُ ۚ

شَادِي مُنَادِي ۚ فَرْدِي ۚ فَرَايَا ۚ شَايَهُ ۚ

هَائِيَهُ ۚ دِيوَهُ ۚ پِيرِيَا ۚ ظَفِيرَا ۚ حَوَا ۚ

اَكْفِيشَا ۚ قَمَطُوشَا ۚ قَمَطُوشَا ۚ

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

أَوْرَادُ الْأَسْبُوعِ الشَّرِيفِ

یہ اسبوع شریف کے اوراد ہیں

لِسَيِّدِنَا الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ ابْنِي

مصطفیٰ ہمارے سید غوث الاعظم ابی

مُحَمَّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْجَمِيلُ الرَّحْمَنُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی ہے بزرگ بڑا مہربان

الرَّحِيمُ : اللَّطِيفُ : الْحَلِيمُ : الرَّؤُوفُ :

نہایت رحم والا لطف کرنے والا صاحب علم مہربان

الْعَفْوُ : الْمُؤْمِنُ : النَّصِيحُ : الْمَجِيبُ :

معاف کرنے والا امن دینے والا مددگار دعائیں قبول کرنے والا

المُعِيْثُ : القَرِيْبُ : السَّرِيْعُ : الكَرِيْمُ :

فریاد سننے والا نزدیک جلدی حساب لینے والا کرم کرنے والا

ذُو الْاِكْرَامِ : ذُو الطُّوْلِ : رَبُّ الْكِسْفِيْنِ

صاحبِ اکرام صاحبِ حشمت لے پڑوگا رکھے مجھے ایسے

مِنْ جَمَالٍ بَدِيْعِ الْاَنْوَارِ الْجَمَالِيَّةِ مَا

جمال بدیع الانوار کے لباس خوبصورت پہنا جو

يَدُ هِشِّ اَبْوَابِ الذَّرَاتِ الْكُوْنِيَّةِ

اپنی روشنی سے پیدائشی ذرات کے دروازے بند کر دیں۔

فَتَتَوَجَّهْ اِلَى حَقَائِقِ الْمَكُوْنَاتِ تَوَجُّهَ

یعنی تمام اندھیرے مجھ سے دور ہو جائیں پس حقائق کائنات کے مجھ پر

الْمَحَبَّةِ الذَّائِبَةِ الْجَاذِبَةِ اِلَى شُهُودِ

ذاتی محبت مطلق جمال کے شہود کی طرف کھینچنے والے

مُطْلَقِ الْجَمَالِ الَّذِي لَا يُضَارُّهُ قُبْحٌ وَلَا

توجہ مجھ پر کریں وہ جمال کہ جس کو کوئی کلنگ نہیں لگتا اور نہ

يَقْطَعُ عَنْهُ إِيْلَامٌ وَأَجْعَلُنِي مَرْحُومًا

کبھی اس سے خوشی منقطع ہوتی ہے اور مجھے ہر ایک رحمت سے

مِّنْ كُلِّ رَحِيمٍ بِحُكْمِ الْعَطْفِ الْحُبِّيِّ

مرحوم کر ساتھ حکم اس محبت والی مہربانی کے

الَّذِي لَا يَشُوبُهُ انْتِقَامٌ وَلَا يَنْقِصُهُ

جس میں کوئی انتقام کا شائبہ نہیں اور نہ اس کو کوئی

غَضَبٌ وَلَا يَقْطَعُ مَدَدَةَ سَبَبٍ وَ

غضب ناخوش کرتا ہے اور نہ اس کی یاوری کوئی سبب کاٹ سکتا ہے اور

تَوَلَّىٰ ذَاكَ بِحُكْمِ اٰبِدِيَّةٍ وَّ اِرْتِيَاكَ

اس بات کی کارسازی اپنی ابدیت اور اپنے

اِلَىٰ غَيْرِ نِهَآيَةٍ لَا تَقْطَعُهَا غَايَةٌ

لا نہایت دوام اور ہمیشگی کے ہمراہ کو جس کو کوئی حد ختم نہیں کرتی

يَا رَحِيْمٌ ۙ هُوَ الرَّحِيْمُ رَبُّاٰهٖ رَبُّاٰهٖ

اے نہایت مہربان تو وہی مہربان ہے جو قیامت میں رحم کرے گا اے میرے پور دگار

غَوْنَاهُ يَا خَفِيًّا لَا يَظْهَرُ يَا ظَاهِرًا

اے میرے فریادرس اے پوشیدہ جو ظاہر نہیں ہوتا اے ظاہر جو

لَا يَخْفَى لَطْفًا أَسْرَارًا وَجُودًا

پوشیدہ نہیں ہوتا تیرے اعلیٰ وجود کے اسرار

الْأَعْلَى فَتَرَى فِي كُلِّ مَوْجُودٍ وَعَلَتْ

باریک ہیں۔ پس یہ اسرار ہر ایک موجودات میں دیکھے جاسکتے ہیں اور تیرے

أَنْوَارُ ظُهُورِكَ الْأَقْدَسِ فَبَدَتْ

نہایت پاک ظہور کے انوار بلند ہیں پس ہر ایک

فِي كُلِّ مَشْهُودٍ وَأَنْتَ الْحَلِيمُ الْمَنَّانُ

مشہود میں ظاہر ہو رہے ہیں اور تو حلم کرنے والا مہربانی سے

بِالرَّأْفَةِ وَالْعَفْوِ السَّرِيعِ بِالمَغْفِرَةِ

احسان کرنے والا اور جلدی معافی بخشش کے ساتھ کرنے والا ہے

مُؤْمِنٍ مِنَ الْخَائِفِينَ نَصِيرٍ الْمُسْتَعِيثِينَ

خوف کرنے والوں کو امن دینے والا فریاد کرنے والوں کا مددگار

الْقُرْبِ بِمَحُوجَاتِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ

قرب اور بعد کے جہات دور کر کے قریب دینے والا

عَنْ عِيُونِ الْعَارِفِينَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ

عارفوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھانے والا اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے

يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِكْرَامِ هَسْلَامٌ تَوَكَّلَا

اے صاحبِ حشمت اور بزرگی کے سلام کہا گیا

مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

رب رحیم سے اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ہے جہازوں کا

ورد روزِ دو شنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں صاحبِ علم

الرَّحِيمُ الْفَعَالُ اللَّطِيفُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

نہایت مہربان کارکن باریک بین کارساز سراہا گیا

الصُّبُورُ الرَّشِيدُ الرَّحْمَنُ رَبِّ اذْقِنِي

مستعمل ہدایت والا مہربان اے میرے پروردگار مجھے اپنے

مِنْ بُرْدِ حِلْمِكَ عَلَيَّ مَا ابْتَهَجُ بِهِ فِي عَوَالِمِي

علم کی ٹھنڈک چکھا جو میرے حق میں ہو جسکے ساتھ میں اپنے معلومات کی رو سے

فَلَا أَشْهَدُ فِي الْكُونِ إِلَّا مَا يَقْتَضِي

خوش ہو جاؤں۔ پس جہاں میں اپنے سکون اور رضا کی اقتضا سے

سُكُونِي وَرِضَائِي فَإِنَّكَ الْحَقُّ وَأَمْرُكَ

مجھے دکھائی دیوں کیوں کہ تو حق اور تیرا امر

الْحَقُّ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّحِيمُ رَبِّ اشْهَدْنِي

حق ہے اور تو پکے کام والا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے

مُطْلَقًا فَأَعْلِيَّتِكَ فِي كُلِّ مَفْعُولٍ حَتَّى لَا

ہر ایک مفعول میں اپنی فاعلیت دکھلا یعنی مجھے ایسا کر تیری کمال

أَرَىٰ فَاعِلًا غَيْرَكَ لِأَكُونَ مُصِيبًا

قدرت کے سوا کسی فاعلیت کو خیال میں نہ لاؤں یہاں تک کہ کوئی فاعل تیرے سوا نہ دیکھوں

تَحْتَ جَرِيَانٍ أَقْدَارِكَ مُنْقَادًا الْكُلِّ

تاکر تیری تقدیروں کے نیچے ثابت و مطمئن دل ہو جاؤں اور تیرے ہر ایک

حُكْمٍ وَجُودِي عَيْبِي وَغَيْبِي وَبِرْزَخِي

حکم وجودی عیبی اور غیبی اور برزخی

يَانَا فَنَارُوحِ أَمْرِهِ فِي كُلِّ عَيْنٍ اجْعَلْنِي

کافرمانبردار ہو جاؤں اے امر کا روح ہر ایک وجود میں پھونکنے والے مجھے

مُنْفَعِلًا فِي كُلِّ حَالٍ لِّمَا يُكْوِلُنِي عَرُ

امر قبول کرنے والا ہر حال میں کہ جو کہ مجھے جہان کے

ظَلَمْتُ تَكْوِينَاتِي وَامْحُوتُ فِعْلِي وَفِعْلِي

اندھیروں سے برگشتہ کرے اور اپنے فعل کے اکیلا پن میں میرا

الْفَاعِلِينَ فِي أَحَدِيَّةِ فِعْلِكَ وَتَوَلَّيْتُ

فعل اور تمام فاعلین کا فعل نیست کر دے اور اپنے بزرگ

بِحَمِيلِ حَمِيدِ اٰخْتِيَارِكَ لِيْ فِيْ جَمِيْعِ

اور نگوئی والے اختیار سے جو تو میرے لیے رکھتا ہے میری

تَوْجِهَاتِيْ وَاَفْنِ مِيْنِيْ اِرَادَتِيْ وَصِيْرَتِيْ

کار سازی تمام توجہات سے کر اور میرے ارادہ سے کچھ کو فانی کر اور مجھے صبر سے

وَسَدِّدْنِيْ وَاَرْحَمْنِيْ وَاَصْحَبْنِيْ

اور مجھے خواہشوں سے بند کر اور مجھ پر رحم کر اور لطف

بِاللُّطْفِ وَالْعِنَايَةِ بِمَعِيَّةِ خَاصَّةٍ

و عنایت سے میری ہمراہی خاص کے جو تجھے

مِّنْكَ وَحَقِّقْنِيْ بِقُرْبِكَ الَّذِيْ

میرے ساتھ ہو فرما اور مجھے اپنے اس قرب کے لائق کر جس میں میرے

لَا وَحْشَةَ مَعَهُ يَا رَحْمٰنُ يَا سَلَامٌ

ساتھ کوئی وحشت نہ رہے اے رحمن اے سلامتی دینے والے

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط

اور سب تعریف اللہ پروردگار عالمین کو لائق ہے۔

59632

ورد روزِ شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

اَلِہِیْ مَا اَحْلَمَکَ عَلٰی مَنْ عَصَاکَ وَمَا

اے میرے محبوب برحق تو کیا بڑا بار ہے اس پر جو تیری نافرمانی کرے اللہ تو

اَقْرَبَکَ مِمَّنْ دَعَاکَ وَمَا اَعْطٰکَ عَلٰی

کیا قریب ہے اس سے جو تجھے پکارے اور تو کیا مہربان ہے اس پر

مَنْ سَاَلَکَ وَمَا اَرَادَ فَاکَ بَیْنُ اَمَلِکَ مَنْ

جو تجھ سے سوال کرے اور تو کیا بڑا رحیم ہے اس کے ساتھ جو تجھ سے امید رکھے

ذَالَّذِیْ سَاَلَکَ فَحَرَمْتَهُ اَوْ لَجَا اِلَیْکَ

وہ کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا پس تو نے اُسے محروم رکھا اور تیری

فَاَهْمَلْتَهُ اَوْ تَقَرَّبَ مِنْکَ فَاَبْعَدْتَهُ

طرف مٹھی ہوا پس تو نے اس کو بیکار چھوڑا یا تجھ سے ملاپ چاہا اور تو نے اس کو دور کر دیا

أَوْهَرِبَ إِلَيْكَ فَطَرَدْتَهُ لَكَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

یا تیری طرف دوڑ کر گیا پس تو نے اسے دھتکار دیا سب خلقت تیری ہے سب امر تیری ہے

إِلَهِي أَتُرَاكَ تُعَذِّبُنَا وَتُوحِيْدُكَ فِي

یا میرے معبود کیا تو مناسب سمجھتا ہے کہ تو ہمیں عذاب دے دے اور خالیکہ تیری توحید ہمارے

قُلُوبِنَا وَمَا إِخَالُكَ تَفْعَلُ وَلَئِنْ فَعَلْتَ

دلوں میں ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ تو ایسا کرے اور اگر تو ایسا کرے گا

أَتَجْمَعُنَا مَعَ قَوْمٍ طَالَ مَا بَعَضْنَا هُمُ لَكَ

تو کیا تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کریگا جنکو ہم بڑی مدت تیری محبت سے بے وطن جانتے رہے

فِي الْمَكْنُونِ مِنْ أَسْمَائِكَ وَمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ

پس اپنے ناموں کی پوشیدہ تاثیرات کے طفیل اور اپنی پوشیدہ چمک و مک کی طفیل

مِنْ بَهَائِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْمَلُوعِ

اس عریص نفس

وَلِهَذَا الْقَلْبِ الْجَزُوعِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ لِحَرِّ

اور اس بے صبر دل کو بجھڑے جو کہ دھوپ کی گرمی میں صبر

الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصِيرُ لِحَرِّ نَارِكَ يَا حَلِيمٌ

نہیں کر سکتا پس تیری آگ کی گرمی میں کس طرح صبر کر کے گا اے علم کرنے والے

يَا عَظِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا رَحِيمٌ اللَّهُمَّ

اے بڑے مرتبے والے اے سخی اے مہربان اے اللہ

إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّلِّ إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ

ہم تیرے ساتھ پناہ مانگتے ہیں ذلت سے مگر جو تیرے لیے ہو اور خوف سے

الْأَمْنِكَ وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ

مگر جو تجھ سے ہو اور فقر فاقہ سے پناہ مانگتے ہیں مگر جو تیری طرف سے ہو اے اللہ

كَمَا صُنْتَ وَجُوهَنَا أَنْ تَسْجُدَ لِعَبِيرِكَ

جیسا تو نے ہمارے مومنوں کو غیر کے آگے سجدہ کرنے سے بچایا

فَصْنِ أَيْدِيَنَا أَنْ تَمْتَدَّ بِالسُّؤَالِ لِعَبِيرِكَ

ایسا ہی ہمارے ہاتھوں کو بچا کہ تیرے غیر کے آگے سوال نہ کریں

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

کوئی عبود نہیں مگر تو ہی ہے تجھے پاکی ہے ٹھیک میں

الظَّالِمِينَ ه وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

ظالموں سے ہوں اور سب صفت ثنا پروردگار جہانوں کے لیے ہے۔

ورد روز چہار شنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

إِلَهِي عَمَّ قَدْ مَكَ حَدَّثِي فَلَا أَنَا وَأَشْرَقَ

یا اللہ تیری ہمیشگی نے میری پیدائش پر عام احسان کیا ہے پس میرا تو کچھ نہیں اور

سُلْطَانُ نُورٍ وَجْهَكَ فَأَضَاءَ هَيْكَلِ

تیری ذات کا نور مجھ پر چمکا پس میری بشریت کی ہیکل کو

بَشَرِيَّتِي وَلَا سِوَاكَ فَمَا دَامَ مِنِّي فِدَاؤُ امِكَ

روشن کر دیا اب تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا پس میں جب تک ہو گا تیری بقا کے ساتھ

وَمَا فَنِي عَنِّي فَيُرْوِيَّتِي إِيَّايَ وَأَنْتَ الدَّائِمُ

قائم رہوں گا اور جب میں فنا ہو گا تو تیرا دیدار مجھے نصیب ہو اور تو دائم ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِالْأَلْفِ إِذَا

نہیں کوئی معبود سوا تیرے تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل الف اللہ کے جب

تَقَدَّمْتُ هُوَ وَبِالْهَاءِ إِذَا تَأَخَّرْتُ

مقدم کیا جاتا ہے اور طفیل ہاء کے جب پیچھے آتی ہے

وَبِالْهَاءِ مِثِّي إِذَا انْقَلَبْتُ لِمَا أَنْ تَفِينِي

اور ساتھ ہاء کے مجھ سے جب لام سے بدل جاتی ہے یہ کہ اپنی ذات کیساتھ مجھے

بِكَ عَنِّي حَتَّى تَلْتَحِقَ الصِّفَةُ بِالصِّفَةِ وَ

مخوردے یہاں تک کہ صفت کے صفت مل جائے اور

تَقَعُ الرَّابِطَةُ بِالذَّاتِ هَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے نہیں کوئی معبود تیرے سوا

يَا حَيُّ هُوَ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ هُوَ

اے زندہ اے قائم اے صاحب بزرگی اور اکرام کے

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ہمارے سردار محمد علیہ السلام اور ان کے

وَعَلَىٰ إِلَهِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ

اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو جو اور سب تعریفیں

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ط

اللہ کو لائق ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے اور سب تائشیں اسی کو لائق ہیں۔

ورد روز پنجشنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ دائم اور ہمیشہ قائم ہے اللہ وہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ وَعَنَتِ

جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں زندہ قائم ہے اور سب منہ زندہ

الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي

قائم خدا کے آگے ذلیل ہوں گے۔ یا اللہ میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بِمَا سَأَلَكَ

مانگتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ کچھ جو تیرے

بِهِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

نبی نے تجھ سے سوال کیا جس کا نام پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ يَا دَاوُدُ يَا دَاوُدُ يَا دَاوُدُ

وسلم ہے اے مہربان اے مہربان اے مہربان

يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدِ

اے صاحب عرش بزرگ کے اے پہلی بار پیدا کرنے والے اے دوسری بار پیدا کرنے والے

يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ

اے جو کچھ چاہے کرنے والے تیرے ذاتی نور کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں

الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَبِقُدْرَتِكَ

وہ نور جس نے عرش کے ارکان کو پُر کر دیا اور تیری قدرت کے طفیل

الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

جس کے ساتھ تو تمام مخلوقات پر قادر و غالب ہے

وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۝

اور تیری رحمت کے طفیل جو کہ ہر چیز پر واسع اور فراخ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيثُ اغْنِنِي تین بار

نہیں کوئی معبود برحق تیرے سوا اے فریادرس میری فریادرسی کر۔ تین بار

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا لَطِيفُ قَبْلَ كُلِّ

یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے باریک بین ہر ایک باریک بین

لَطِيفٍ ۝ وَيَا لَطِيفُ بَعْدَ كُلِّ لَطِيفٍ ۝

سے پہلے اور اے مہربان ہر ایک مہربان کے بعد

يَا لَطِيفُ تین بار لَطُفْتَ بِمَخْلُوقِ السَّمَوَاتِ

اے مہربان۔ تین بار۔ تُو نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش

وَالْأَرْضِ ۝ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ كَمَا لَطُفْتَ بِي

میں لطف کیا۔ اے میرے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ جیسا تُو نے مجھ پر مائی

فِي ظُلُمَاتِ الْأَحْشَاءِ ۝ الْلُطْفُ بِي فِي

کے پیٹ کے اندھیروں میں لطف کیا ایسا ہی مجھ پر اپنی قضا و قدر میں

قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ وَفَرَّجَ عَنِّي الضِّيقَ

قضا و قدر میں مہربانی کر اور مجھ سے تنگی دور کر دے

وَلَا تُحْمِلْنِي مَا لَا أُطِيقُ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور جس تکلیف کی میں طاقت نہیں رکھتا وہ مجھ پر نہ ڈالو بحرمت محمد کے اُس پر

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو اور اس کی آل پر اور ابو بکر

الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ط

صدیق اکبر کے خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو۔

يَا لَطِيفُ هُ يَا لَطِيفُ هُ يَا لَطِيفُ هُ يَا لَطِيفُ هُ يَا لَطِيفُ هُ

اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان

خَفِيَّ خَفِيَّ خَفِيَّ لَطِيفِكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ

در باریک در باریک لطف اپنے کے جو نہایت مخفی در مخفی در مخفی ہے

إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ ط اللَّهُ لَطِيفٌ

تو نے فرمایا اور تیرا فرمانا سچ ہے اللہ مہربان ہے

بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ

اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہے اور وہ قوت والا

الْعَزِيزُ ۖ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۖ

غالب ہے اور ہم کو اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

اور سب تعریفیں اللہ کو جو پروردگار جہانوں کا ہے

ورد روز جمعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ قَدِيمِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل بزرگ قدیم

كَرِيمِ مَكْنُونِ مَخْرُوفِ أَسْمَائِكَ

صاحب عزت پوشیدہ پاک ناموں تیرے کے

وَبِالنُّوعِ أَجْنَاسٍ رُقُومٍ نِقُوشِ الْوَارِكِ

اور طفیل قسموں جنسوں رقموں نقشوں نوروں تیرے کے

وَبِعَزِيْزِ اِعْزَاوٍ تَعَزُّوْا عَنْ تِكِّ وَبِحَوْلِ

اور طفیل عزت والے اعزاز بزرگ عزت تیری کے اور طفیل طاقت

طَوْلِ جَوْلٍ شَدِيْدٍ قُوَّتِكَ وَبِقَدْرِ

غلبے حملے شدید قوت تیری کے اور طفیل قدر اندازے

مِقْدَارِ اِقْتِدَارِ قُدْرَتِكَ وَبِتَائِيْدِ

اقتدار قدرت تیری کے اور طفیل تائید

تَحْمِيْدٍ تَمْجِيْدٍ تَعْظِيْمِ عَظَمَتِكَ

تعریف بزرگی بیان کرنے تعظیم عظمت تیری کے

وَبِسُمْوَانٍ مُّوَعَّلٍ رَفَعَتِكَ وَبِثَبْوَمِ

اور طفیل اونچائی بڑھنے بلندی رفعت تیری کے اور طفیل قائم رکھنے

دَيْمُوْمٍ دَوَامِ مَدَّتِكَ وَبِرِضْوَانِ

والی ہمیشگی دوام مدت تیری کے اور طفیل رضامندی

عُفْرَانِ اَمَانٍ مَغْفِرَتِكَ وَبِرْفِيْعِ بَدِيْعِ

بخشش امان مغفرت تیری کے اور طفیل بلند عجاائب پختہ

مَنْيَعِ سُلْطَانِكَ وَسَطْوَتِكَ وَبِرَهْبُوْتِ

حکومت اور غلبے تیرے کے اور طفیل دہدہ بے

عَظْمُوْتِ جَبْرُوْتِ جَدَلِكَ وَبِصَلَاتِ

عظمت تجر جلال تیرے کے اور طفیل رحمت

سَعَاتِ سِعَةِ بِسَاطِ رَحْمَتِكَ وَبِلَوَامِعِ

پاک فراخی فرش رحمت تیری کے اور طفیل چمکنے

بِوَارِقِ صَوَاعِقِ عَجَائِبِ هَيْجِ وَهَيْجِ

والے روشن بجلیوں صاف بھڑک دار روشن

بِهَيْجِ نُوْرِ ذَاتِكَ وَبِبَهْرِ قَهْرِ جَهْرِ

نور ذات تیری کے اور طفیل روشن غلبے ظاہر

مَبْمُوْنِ اِرْتِبَاطِ وَحَدَايَتِكَ وَبِمَدِيْرِ

بارک رابطے توجہ تیری کے اور طفیل برحق

هَيَّا رَتِيَّارَ نِيَّارَ مَوَاجِ بَحْرِكَ الْمَحِيْطِ

زوردار ہوش زن موجوں دریا تیری کے جو تیری بادشاہی

بِمَلِكُوْتِكَ وَبِإِنْسَاحِ انْفِصَاحِ مِيَادِيْنِ

کا محیط ہے اور طفیل فراخ فراخی میدانوں

بِرَازِحِ كُرْسِيِّكَ وَبِهَيْكَلِيَّاتِ عُلُوِّيَّاتِ

حدود کرسی تیری کے اور طفیل پاک مقامات بلند

رُوحَانِيَّاتِ اَمْلَاكِ اَفْلَاكِ عَرْشِيَّكَ

روحانیات ملکوں افلاک عرش تیرے کے

وَبِاَمْلَاكِ الرُّوحَانِيَّيْنِ الْمُدَبِّرِيْنَ

اور طفیل فرشتوں روحانیوں کو اکب کی

لِلْكُوَاكِبِ الْمُدِيْرَةِ بِاَفْلَاكِكَ وَبِجَنِيْنِ

تدبیر کرنے والوں تیرے آسمانوں کے اور طفیل گریہ زاری

اَيْنِ تَسْكِيْنِ قُلُوْبِ الْمُرِيْدِيْنَ بِقُرْبِكَ

تسکین دلوں تیرے قرب کے خواہشمندوں کے

وَبِخَضَعَاتِ حَرَقَاتِ زَفَرَاتِ الْخَالِفِينَ

اور طفیل ماجزیوں سوزشوں مناجاتوں آہ و زاری تیری ہیبت سے

مِنْ سَطْوَتِكَ وَ بِأَمَالِ نَوَالِ أَقْوَالِ

ڈرنے والوں کے اور طفیل بخشش کی امیدوں تیری

الْمُجْتَهِدِينَ فِي مَرْضَاتِكَ وَ بِتَخَضُّعِ

رضامندی میں کوشش کرنے والوں کے اور طفیل عجز و نیاز

تَفْطِيعِ تَفْطِيعِ تَعْظِيمِ مَرَاثِرِ الصَّابِرِينَ

بھاری تکلیف کی تنگی کی تعظیم تلخیوں صابر لوگوں کے

عَلَى بِلَوَائِكَ وَ بِتَعَبُدِ تَمَجُّدِ تَجَلُّدِ

تیری بلاؤں پر اور طفیل بندگی بزرگی بہادری

الْعَابِدِينَ عَلَى طَاعَتِكَ يَا أَوَّلَهُ يَا آخِرَهُ

عابد لوگوں کے تیری طاعت پہ لے اول لے آخر

يَا ظَاهِرَهُ يَا بَاطِنَهُ يَا قَدِيمَهُ يَا مُقِيمَهُ

لے ظاہر لے باطن لے قدیم لے مقیم

يَا قَوِيْمُهُ اِطْمِسْ بِطَلْسَمِ بِسْمِ اللّٰهِ

اے قائم رہنے والے محو کر دے برکت طلسم بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ شَرَّ سُوَيْدَا عِ قُلُوْبِ

شریف کے شر سیاہی دون

اَعْدَاۤءِ نَا وَاَعْدَاۤءِكَ وَدُقَّ اَعْنَاقَ رُوْسِ

دشمنوں ہمارے اور دشمنوں اپنے کو اور اپنے قہر و غلبہ کی تیز

الظُّلْمَةِ بِسُيُوفِ نَشَاتٍ قَهْرِكَ وَ

تلماروں سے ظالموں کے سروں سے گردنیں کاٹ دے

سَطُوْتِكَ وَاَحْجُبْنَا بِحُجُبِكَ الْكَنِيْفَةَ بِحَوْلِكَ

اور ہم کو اپنے محکم پردوں میں طفیل اپنی طاقت

وَقُوْتِكَ وَقُدْرَتِكَ عَنْ لِحْظَاتِ لِمَحَاتِ

دقت اور قدرت کے ان کی آنکھوں سے بد نظروں

لِمَعَاتِ اَبْصَارِهِمِ الضُّعِيْفَةَ بِعِزَّتِكَ

کے چکاروں سے ڈھانپ لے طفیل اپنی عزت

وَقُدْرَتِكَ وَسَطْوَتِكَ يَا اللَّهُ هُ يَا اللَّهُ هُ

اور قدرت اور غلبے کے اسکا اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ هُ وَصَبَّ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَابِ مَيَازِينِ

اے اللہ اور ہم پر توفیق کی فواروں کے نیکوں

التَّوْفِيقِ فِي رَوْضَاتِ السَّعَادَاتِ أَنْعَاءِ

سے نیک بختیوں کے باغوں میں

لَيْلِكَ وَأَطْرَافَ نَهَارِكَ وَاعْمِسْنَا

رات دن بانی پر سا اور ہم کو اپنی نکوئی و

فِي أَحْوَاضِ سَوَاقِي مَسَارِي بَرِّبَرِّكَ وَ

احسان کے جاری و سیراب حوضوں میں نہلا اور

رَحْمَتِكَ وَقَيْدُنَا بِقَبِيضِ السَّلَامَةِ

ہم کو گناہوں سے بچنے

عَنِ الْوُقُوعِ فِي مَعْصِيَتِكَ يَا أَوَّلُ هُ

کے قیدوں میں قید رکھ اے اول

يَا اٰخِرَةَ يَا ظَاهِرَةَ يَا بَاطِنَةَ يَا قَدِيْمَةَ

اے آخر اے ظاہر اے باطن اے قدیم

يَا قَوِيْمَةَ يَا مُقِيْمَةَ يَا مَوْلَانِيَّ يَا قَادِرَةَ

اے قائم اے مقیم اے میرے مولا اے قادر

يَا مَوْلَانِيَّ يَا غَافِرَةَ يَا لَطِيْفَةَ يَا خَيْرَةَ

اے میرے مولا اے گناہ بخشنے والے اے لطف کرنے والے اے خیر کرنے والے

اَللّٰهُمَّ ذَهَلَتْ الْعُقُوْلُ وَانْحَسَرَتْ

یا اللہ عقل جاتی رہی اور آنکھیں

اَلْاَبْصَارُ وَحَارَتْ الْاَوْهَامُ وَضَاقَتْ

تھک گئیں اور وہم حیران ہو گئے اور

اَلْاَفْهَامُ وَبَعْدَتْ الْخَوَاطِرُ وَقَصُرَتْ

فہم بھگ ہو گئے اور دل کی باتیں دور جا پڑیں اور ظن کم بہت

الظُّنُوْنُ عَنْ اِدْرَاكِ كُنْهٍ كَيْفِيَّةٍ

ہو گئے تیری ذات کی کنہ کیفیت معلوم

ذَاتِكَ وَمَا ظَهَرَ مِنْ بَوَادِي عَجَائِبِ

کرنے سے اور تیرے قسم قسم کے عجائبات

أَنْوَاعِ أَصْنَافٍ قُدْرَتِكَ دُونَ الْبُلُوغِ

کے جنگلوں سے کچھ ظاہر نہ ہوا سوائے چمکنے

إِلَى تَلَا لَوْلَمَعَاتٍ لَمَحَاتٍ بُرُوقٍ شُرُوقِ

چمکار روشنیوں چمک دمک

أَسْمَائِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا أَوَّلَهُ

ناموں تیرے کے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اول

يَا آخِرَهُ يَا ظَاهِرَهُ يَا بَاطِنَهُ يَا قَدِيمَهُ

اے آخر اے ظاہر اے باطن اے قدیم

يَا قَوِيْمَهُ يَا مُقِيْمَهُ يَا نُورَهُ يَا هَادِيَهُ

اے پختہ کار اے مقیم اے نور اے ہادی

يَا بَدِيعَهُ يَا بَاقِيَهُ يَا ذَا الْجَدَلِ وَالْإِكْرَامِ

اے پیدا کرنے والے اے باقی اے صاحب جلال و عظمت و انعام نام کے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِثُّ يَا عِیَّاشُ

تجھے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریاد

الْمُسْتَعِیْثِينَ أَعْتَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ

کرنے والوں کے فریاد میں ہماری فریاد میں تجھے سوا کوئی معبود رہتی نہیں اپنی رحمت

أَرْحَمَنَا اللَّهُمَّ مُحَرِّكِ الْحَرَكَاتِ وَمُبْدِئِ

کی طفیل ہم پر رحمت کر۔ اے اللہ تحریک دینے والے تمام حرکات کے اور تمام مقاصد

نَهَايَاتِ الْغَايَاتِ وَمُخْرِجِ يَنَابِيعِ قِصَاصِ

کی انتہا کو شروع کرنے والے اور اے چشمے زمین سے نکالنے والے

قِصَبَاتِ النَّبَاتِ وَمُشَقِّقِ صَمِّ جَلَامِيدِ

بوٹیوں کی شاخیں اگانے والے اور اے عٹوس اور سخت پتھروں اور محکم پہاڑوں

الصُّحُورِ الرَّائِبِيَّاتِ وَالْمُنْبِيعِ مِنْهَا

کے پھاڑنے والے اور ان میں مخلوقات کے لیے

مَاءٍ أَمْعِينَا لِلْمَخْلُوقَاتِ وَالْمُحْيِي بِهِ

میتھے پانی کے چشمے نکالنے والے اور اس پانی سے تمام

سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ وَالنبَاتِ وَالْعَالِمِ

ہانداروں اور بوٹیوں کو زندہ کرنے والے اور اے لوگوں

بِمَا اخْتَلَجْنَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ أَسْرَارِهِمْ

کے سینوں کے کھپدوں

وَأَفْكَارِهِمْ وَفَكَرْمُزِنُطِقِ إِشَارَاتِ

اور فکروں کو جاننے والے اور باریک رمز و اشارے

خَفِيَّاتِ لُغَاتِ النَّمْلِ السَّارِحَاتِ

زمین پر چلنے والی چوٹیوں کی لغتوں اور بولیوں کو سمجھنے والے

يَا مَنْ سَبَّحَتْ وَقَدَّسَتْ وَعَظَّمَتْ

اے وہ پاک ذات کہ تیری تسبیحیں بیان کیں اور تجھے پاکی سے یاد کیا اور تیری عظمت بیان کی

وَكَبَّرَتْ وَمَجَّدَتْ لِجَلَالِ كَمَالِ

اور تجھے بڑائی سے یاد کیا اور تیری بزرگی بیان کی ساتھ بزرگی خوبصورتی کمال

أَقْدَامِ أَقْوَالِ أَعْظَامِ عِزَّةٍ وَ

پیشرو اقوال بڑے بڑے کے جو تیری عزت اور

جَبْرُوتِہِ مَلَائِكُ سَبْعِ سَمَوَاتِكَ

جبروت کے لائق ہیں سات آسمان کے فرشتوں نے

اجْعَلْنَا فِي هَذِهِ الْعَامِ وَفِي هَذَا

کر دے ہم کو اس سال اور اس

الشَّهْرِ وَفِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَفِي

مہینے اور اس جمعہ اور

هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي

اس دن اور اس ساعت اور

هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَارِكِ مِمَّنْ دَعَاكَ

اس وقت مبارک میں ان لوگوں سے جی تو دے

فَأَجَبْتَهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَ

قبول کرتا ہے اور جو سوال کریں عطا کرتا ہے اور

تَضَرَّعَ إِلَيْكَ فَرَحْمَتَهُ وَإِلَى دَارِكَ

ان کی عاجزی پر رحم کرتا ہے اور اپنی سلامتی کے گھر میں

دَارِ السَّلَامِ اَدْنَيْتَهُ بِفَضْلِكَ يَا جَوَادُ هُ

ان کو پہنچاتا ہے اپنے فضل سے اے سخی

يَا جَوَادُ هُ يَا جَوَادُ هُ جُدْ عَلَيْنَا وَعَامِلْنَا

اے سخی اے سخی ہم پر سخاوت کر اور ہمارے ساتھ

بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تُقَابِلْنَا بِمَا نَحْنُ

وہ معاملہ کر جس کے تو لائق ہے اور اس بات پر ہم پر گرفت نہ کر جس کے ہم

أَهْلُهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ

لائق ہیں تو ہی پر ہیزگاری اور

الْمَغْفِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ

بخشش کے لائق ہے اے تمام رحمت کرنے والوں کی زیادہ رحمت کرنے والے اے اللہ

يَا اللَّهُ هُ يَا اللَّهُ هُ يَا أَوَّلَ هُ يَا آخِرَ هُ يَا ظَاهِرَ هُ

اے اللہ اے اللہ اے اول اے آخر اے ظاہر

يَا بَاطِنَ هُ يَا قَدِيمَ هُ يَا قَوِيمَ هُ يَا مُقِيمَ هُ

اے باطن اے قدیم اے قائم اے مقیم

يَانُورُهُ يَا هَادِيُّ يَا بَدِيعُ يَا بَاقِيُّ ۝

اے نور اے ہادی اے بدیع اے باقی

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے صاحب جلال اور عظمت کے تیرے سوا کوئی معبود نہیں

بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِيثُ يَا عِيَاثَ الْمُسْتَعِيثِينَ ۝

ہم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریاد کرنے والوں کے فریاد سننے والے

أَعْتَنَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

ہماری فریاد سن۔ تمہارے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور تیری رحمت کے ساتھ اے بڑھ کر رحمت

الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

کرنیوالے تمام رحمت کرنے والوں کے ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ۔ یہ کہ رحمت بھیجے تو ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَ

سردار محمد پر اور اس کی آل اور صحابہ پر اور سلام بھیجے تو اور

أَنْ تَقْضِيَ حَوَائِجَنَا يَا اللَّهُ ۝ يَا اللَّهُ ۝ يَا اللَّهُ ۝

یہ کہ ہماری حاجتیں پوری کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اور سب تعریفیں اللہ جہانوں کے پروردگار کو لائق ہیں

ورد روزِ شنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ يَا مَنْ نِعْمَةٌ لَا تُحْصَى وَأَمْرٌ

یا اللہ اے وہ ذات کہ تیری نعمتیں کوئی گن نہیں سکتا اور تیرے امر

لَا يُعْصَى وَنُورَةٌ لَا يُطْفَأُ وَلُطْفَةٌ لَا

کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا اور تیرا نور بجھ نہیں سکتا اور تیرا لطف

يُخْفَى يَا مَنْ فَلَاقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى وَآخِيَهُ

پوشیدہ نہیں رہ سکتا اے وہ ذات کہ تو نے حضرت موسیٰ کے لیے صحرا میں اتار کر دیا

الْمَيْتَ لِعِيسَى وَجَعَلَ النَّارَ بَرْدًا وَ

اور حضرت عیسیٰ کے لیے مڑے زندہ کر دیے اور حضرت ابراہیم کے آگ کو سرد اور

سَلَامًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

سلامت کر دیا رحمت نازل کر ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ

محمدؐ پر اور اس کی آل پر اور محمدؐ ہمارے

لِيْ مِنْ اَمْرِىْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا اَللّٰهُمَّ

لیے اپنے امر کو خوشی اور خلاصی کا باعث بنا یا اللہ

بِتَلَاوُ نُورٍ بِهَاءٍ حُجْبٍ عَرْشِكَ

طفیل چکار نور پردوں عرش تیرے کے میں

مِنْ اَعْدَائِيْ اِحْتَجِبْتُ وَبِسَطْوَةٍ

اپنے دشمنوں سے پردہ مانگتا ہوں اور طفیل فلہ

الْجَبْرُوْتِ مِمَّنْ يَّكِيْدُ فِى تَحْصِنْتُ

جلاہیت کے جو مجھ سے فریب کرے اس سے قلعہ گیر ہوتا

وَيَحْوِلُ طَوْلِ جَوْلٍ شَدِيْدٍ قُوَّتِكَ

ہوں اور ساتھ برکت طاقت فلہ شدید قوت تیری کو

مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ تَخَصَّنْتُ وَبِذِيْمُوْمٍ

ہر ایک بادشاہ سے قلعہ گیر ہوتا ہوں اور ساتھ برکت و ہمیشگی

قَبُوْمٍ دَوَامٍ اَبَدِيَّتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

قائم رہنے والے دوامِ ابدیت تیری کے ہر ایک شیطان سے میں نے

نِ اسْتَعَدْتُ وَبِمَكْنُونِ السِّرِّ مِنْ سِرِّ سِرِّكَ

پناہ مانگی اور ساتھ برکت پوشیدہ و در پوشیدہ مجید تیرے کے

مِنْ كُلِّ هَامَّةٍ تَخَلَّصْتُ وَتَخَصَّنْتُ يَا حَامِلَ

میں ہر ایک شیطان سے خلاص اور قلعہ گیر ہوا ہوں اے عرش کے

الْعَرْشِ عَنِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ يَا حَابِسَ الْوَحْشِ

اٹھانے والے حاملانِ عرش سے اے بند کرنے والے وحشت کے

يَا شَدِيْدَ الْبَطْشِ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ

اے شدید حملے والے تجھ پر میں نے توکل کی اور تیری طرف

اَنْبَتُ اِحْبَسُ عَنِّي مَنْ ظَلَمَنِي وَاغْلِبُ

میں رجوع لایا مجھ سے ظالموں کو بند کر اور جو مجھ پر غالب ہے

عَلَىٰ مَنْ غَلَبَنِي كَتَبَ اللَّهُ لِي غَلِبَنَ أَنَا وَ

اس پر تو غلبہ کر اللہ نے لکھ دیا البتہ میں ضرور غالب ہوں گا اور

رُسُلِي وَإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ أَكْبَرُ

میرے رسول غالب ہونگے تحقیق اللہ قوت والا غالب ہے اللہ بڑا ہے

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ

اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اور اپنی تمام خلقت سے بڑی عزت

جَمِيعَاهُ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَحَافٍ

والا ہے اللہ بڑا غالب ہے اس جس سے میں خوف کرتا

وَأَحْذَرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ

اور ڈرتا ہوں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

إِلَّا هُوَ مُمْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ

جس نے سات آسمانوں کو زمین پر

تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ

کرنے سے روکا ہوا ہے مگر اس کے اذن سے شر

عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُودِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَ

بندے تیرے فلاں سے اور اس کے لشکروں اور تابعداروں اور

أَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ

فرماں برداروں جنوں اور آدمیوں سے یا اللہ

كُنْ لِي جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَمِيعًا جَلَّ

تو میرے پڑوس میں ہو جا ان تمام کے شر سے تیری

بِنَاءُكَ وَعِزُّ جَارِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

صفت بزرگ ہے اور تیرا پڑوس عزت والا ہے اور تیرا نام برکت والا ہے

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَأَنْتَ

اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو جو چاہے کر سکتا ہے اور تو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ

ہر ایک چیز پر قادر ہے اور سب تعریف

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اللہ پروردگار جہانوں کو لائق ہے

بِأَللّٰهِ دُرُودِ شَرِيفِ مُسْتَعَاثِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ زَيَّنَّ النَّبِیِّیْنَ بِحَبِیْبِهِ

تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے ایسا اللہ کہ زینت دی نبیوں کو ساتھ حبیب اپنے

المُصْطَفٰی وَمَنْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ بِنَبِیِّهِ

پیغمبر چہو صلعم کے اور احسان کیا اوپر مومنوں کے ساتھ نبی کریم اپنے

الْمُحْتَبِیِّ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ

برگزیدہ کے درود اور سلام اوپر رسول کریم کے جو اسم ان کا محمد

خَيْرِ الْوَرٰیۃِ الْمَسْبُوْرِیۃِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ

ہے بہتر خلق کے وہ نبی کہ سیر کرایا گیا ان کو عرش مجید سے

اِلٰی تَحْتِ الثَّرٰیۃِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی مَا مَضٰ

سات زمین کے نیچے تک تمام صفات ثابت ہیں واسطے اللہ کے اور اس چیز کے جو گزری

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اور تمام منقبتیں ثابت ہیں اللہ کی اوپر گنتی اس چیز کے جو باقی ہے درود اور سلام

عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَايِ مَدْحُكَ

اوپر رسول اللہ کے جو محمد ہیں بہتر خلق کے تعریف کی میں نے تیرے لیے

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

اے رسول اللہ کے درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم اُمی کے

أَنْتَ خِيَارُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

تمہیں یا نبی برگزیدہ اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ رَسُولُ سَيِّدِ الْكَوْنِينَ فَتَّاحُ فَاتِحِ اللَّهِ

اللہ کے رسول سرور دو جہان کے کھولنے والے مشکلوں کے جاری کرنے والے اللہ کے۔

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُ النَّبِيُّ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اکرم اللہ کے لیے نبی کہ

المُصْطَفَى رَسُوْلٌ سِرَاحُ الْعَالَمِيْنَ

برگزیدہ ہیں رسول چراغ عالم کے

مَحْمُوْدٌ وَمُطَيَّبٌ اللّٰهُ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى

لوگوں کے تعریف کیے گئے پاک کیے گئے اللہ کے۔ فریاد پہنچے گئے طرف

حَضْرَتِ اللّٰهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طُ السَّيِّدُ الْمُعَلَّى رَسُوْلُ نَبِيِّ

اے رسول اللہ کے سردار بلند مرتبہ والے رسول نبی

الْخَافِقِيْنَ قَاسِمُ خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ طُ الْمُسْتَعَاثُ

اہل مشرق اور مغرب کے بانٹنے والے وحض کوثر کے بہتر خلقت اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے

اِلَى حَضْرَتِ اللّٰهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ أَوْلَىٰ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے - بہتر بندوں سے اللہ کے

رَسُولُ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ خَادِمِ طَيْبِ اللَّهِ هُ

رسول صاحب دو جہان کے خادم پاک بندوں سے اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ النَّبِيُّ الْمُرَكَّبُ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے نبی پاک کیے گئے

رَسُولُ تَاجِ الْحَرَمَيْنِ نَاهِ طَاهِرُ اللَّهِ هُ

رسول تاج دونوں حرم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے منع کرنے والے اللہ کے پاک

الْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

اے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ هَدَانَا

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے - ہدایت کیا ہم کو

رَسُولٌ جَدُّ الطَّيِّبِينَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

رسول نانا دو پاکوں کے یعنی حسن اور حسین کے

دَاعٍ مُطَهَّرًا لِلَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

بلانے والے طرف عبادت اللہ کے پاک کیے گئے اللہ کے اے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اور تیرے

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيَّ مَخْتَارٍ مَرْضِيٍّ إِمَامٍ

اے رسول اللہ کے - نبی اختیار کیے گئے برگزیدہ کیے گئے امام

رَسُولٌ مَقْدَمِي الْأَيْمَةِ الْمُهْدِيْنَ هَادِمِيبِينَ

رسول اقتدا کیے گئے اماموں کے وہ امام جو راہ راست دکھائے گئے ہدایت دینے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

دلے ظاہر کر نیوالے امر اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُفہ تیرے اے رسول اللہ کے

هَذَا نَا رَسُولٌ مَّهْدِيٌّ مِّنَ الضَّلَالَةِ مُهْتَدٍ

ہدایت دیا ہیں رسول راہِ راست دکھائے گئے مگر ابھی سے راہِ راست دکھائے

مُطِيعُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

گئے فرمانبردار اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول

اللَّهُ حَبِيبَنَا رَسُولٌ مَّهْدِيٌّ الْأَمَّةِ وَرَسُولٌ

اللہ کے - محبوب ہمارے رسول ہدایت دینے والے امت کے اور رسول

صَفِيٍّ حُجَّةُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

برگزیدہ برہان اور ہادی راہ اللہ کے - فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول

اللَّهُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مَجِبْنَا أَحْمَدُ رَسُولٌ كَرِيمٌ مَرْضِيٌّ

اللہ کے - محمد دوست رکھ دیے گئے ہم کو احمد رسول کریم برگزیدہ کیے گئے

خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

خليفة کیسے گئے اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول

اللَّهُ رَسُولُنَا رَسُولٌ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي طَهُ

اللہ کے۔ رسول ہمارے رسول اوپر ہمیشگی کے نبی طہ

قَائِمًا حَامِدًا اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

قائم ہونے والے عبادت میں تعریف کرنے والے اللہ کی۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے

رَسُولَ اللَّهِ هُوَ أَمِيرُنَا رَسُولٌ وَنَبِيُّ مُحَمَّدٍ

رسول اللہ کے۔ امیر ہمارے رسول اور نبی محمد

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ کے رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان پر اور سلام

نَاصِرُكُمْ بِاللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

یاری دینے والے کلام کرنے والے ساتھ اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے

رَسُولَ اللَّهِ هُ مَعِينَنَا رَسُولُ وَالذُّرِّ النَّبِيُّ

رسول اللہ کے۔ مدد کرنے والے ہم کو رسول اور موتی خالص نبی کریم

الْيَاسِينَ إِمَامًا مِّنْ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاثُ

وہ کہ نام مبارک ان کا یاسین ہے پیشوا امانت دار اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ مُصَدِّقُنَا رَسُولُ وَ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے۔ سچا کرنے والے ہم کو رسول اور

حَبِيبَنَا نَبِيُّ مَزْمَلٍ بَيَانُ رَسُولِ اللَّهِ هُ

محبوب ہمارے نبی گلیم پوشش بیان کرنے والے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَاتُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد چاہئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ شَاهِدُنَا

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے - شاہد ہمارے

رَسُولٌ وَنَبِيٌّ مَدَّنِيٌّ قَرَّانٌ نُورُ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاتُ

رسول اور نبی لباس پوشن نزدیک کرنے والے نور اللہ کے - فریاد چاہئے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ مَذَكِّرُنَا رَسُولٌ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے - یاد دلانے والے ہم کو رسول

مُعَطَّرُ الرُّوحِ بِأَرْجَوَادِ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاتُ

نوشبودار روح والے نیکی کرنے والے سخی اللہ کے - فریاد چاہئے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُلْطَانُ الْأَنْبِيَاءِ

اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے۔ بادشاہ نبیوں کے

رَسُولُ صَاحِبِ الْفُرْقَانِ مَكِّيٌّ شَكُورٌ

رسول صاحب فرقان شریف کے مکے والے شکر کرنے والے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے۔

إِمَامًا الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ الْكَوْثَرِ مَدِينِيٌّ

امام پر نبیگاروں کے۔ رسول صاحب کوثر کے مدینے شریف کے رہنے والے

مُنِيرٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

نورانی بندے اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے۔

سِرَاجُ الْأَوْلِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ الْمِيزَانِ

چراغ ولیوں کے رسول صاحب میزان کے

الْبَطْحِ قَرِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

بطحی والے نزدیک اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے

رَسُولَ اللَّهِ ذُبْرَهَانَ الْأَصْفِيَاءِ رَسُولُ

رسول اللہ کے بزبان برگزیدوں کے رسول

سَيِّدِ الْقَوْمِ عَرَبِيٍّ يَتِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

سردار قوم کے عربی یتیم اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَفِيعِنَا رَسُولُ مَجْرَاهِ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے۔ شفیع ہمارے رسول کہ ہم جگہ جاری ہونے شفاعت کے

المُهْدِي قُرَيْشِي شَهِيدُ اللَّهِ ذَا الْمُسْتَعَاتِ

ہدایت بھیجنے والے قریشی شاہد اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے پیشوا مومنوں کے اور

زِينَةَ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ خَادِمِ الْفُقَرَاءِ حِجَازِيٍّ

زینت نبیوں کے رسول خدمت کرنے والے فقیروں کے حجازی

ذِي بَيْرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاتِ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

ڈرانے والے اللہ کی طرف سے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ ذَا خَتَمِ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولِ مَآجِ مُحَمَّدِ بْنِ

اللہ کے۔ آخر آنے والے نبیوں کے رسول دور کرنے والے کفر کے محمد بیٹے

عَبْدُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

عبد اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے

صَادِقًا رَسُولٌ مَّرْسَلٌ مُتَوَسِّطٌ رَحِيمٌ

سچ کہنے والے پہلے رسول بھیجے گئے درمیان کرنے والے شروع کو رحیم

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے

سَيِّدُ نَارِسُولٍ مُسْتَعِيثٌ مُقْتَصِدٌ حَلِيمٌ

سردار ہمارے رسول فریاد چاہنے والے میان روی کرنے والے بڑو بار بندے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

درود اور سلام اُپر تیرے لئے رسول اللہ کے۔

اِغْنِنَا يَا رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ جَنَّةٌ مَنِيْبٌ

فریاد پہنچو ہم کو اے رسول انسانوں اور جنوں کے آپ برحق اور صحیح ہو شروع کرنے والے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

طرف اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

درود اور سلام اُپر تیرے لئے رسول اللہ کے

وَاعِظْنَا رَسُولُكَ وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَىٰ أَوَّلَ حَبِيْبٍ

اور نصیحت کرنے والے تم کو رسول اور رسول اللہ کے ایسے رسول کہ برگزیدہ ہیں پہلے میں حبیب

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

درود اور سلام اُپر تیرے لئے رسول اللہ کے

لے میں بار پڑنا چاہیے

اَكْرَمًا رَسُولُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ اٰخِرٌ

بزرگ ہمارے رسول صاحب شریعت کے آخر آنے والے

عَزِيزُ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَتِ اللّٰهِ

غلبہ دینے والے اللہ کے فریاد چاہنے والے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے

اَهْلُ التَّقْوَى رَسُولُ صَاحِبِ الطَّرِيقَةِ شِفَاءٌ

صاحب پرہیزگاری کے رسول صاحب طریقت کے تندرستی دینے والے

فَصِيحُ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَتِ اللّٰهِ

امراض قلبی کے خوشگوار اللہ کے فریاد چاہنے والے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے

اٰمَنَّا بِكَ اَنْتَ نَبِيُّنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْحَقِيقَةِ

ایمان لائے ہم ساتھ نبوت تیری کے نبی ہمارے رسول صاحب حقیقت کے

مُضَرِّي بِشَيْرِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

طرف اولاد مضر کے خوشخبری دینے والے اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ إِمَامُ الْأُمَمِ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ الْمَعْرِفَةِ

اللہ کے پیشوا امتوں کے محمد صاحب معرفت کے

بِرْهَانٍ رَحِمَتْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

دلیل رحمت اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے

كَبِيرِنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ ظَاهِرٌ كَرِيمٌ

بزرگ ہمارے رسول صاحب بہشت کے غالب سخی

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝

درود اور سلام اور پرتیے اے رسول اللہ کے

سَدُّ الْعَاصِيْنَ رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ

نیچہ گاہ گنہگاروں کے رسول صاحب بہشت کے

فَارِقُ جَهَنَّمَ سُلْطَانُ تِهَامِيٍّ مُؤْمِنُ اللَّهِ ۝

اور خالی کرنے والے دوزخ کے بادشاہ تہامی یعنی مکہ معظمہ والے ایمان لانے والے بندے اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ فِيهِمَا رَسُولُ

اور سلام اور پرتیے اے رسول اللہ کے - دانا ہمارے رسول

صَاحِبِ الصِّرَاطِ مُبْلِغُ عَاقِبِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

صاحب صراط کے پہنچانے والے پیچھے آنے والے نبی اللہ کے - فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اور پرتیے

يَا رَسُولَ اللَّهِ اٰمَنَّا بِكَ اَنْتَ وَاٰمَنَّا بِرَسُولِكَ

اے رسول اللہ کے ایمان لائے ہم تو ہے والی ہمارا رسول صاحب

الشَّفَاعَةِ بِاطْنِ خَلِيلِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

شفاعت کے باطن ہونے والے دوست اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے

اِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُپر تیرے

يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِيدُ عَوَاِمِنَّا رَسُولُ صَاحِبِ

اے رسول اللہ کے۔ گواہی دینے والے ہم سب کے رسول صاحب

التَّاجِ مُحَلَّلٌ بِاِذْنِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى

چھتر کے آزاد کرنے والے ساتھ اذن اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُپر تیرے

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ النَّارِ مَخْلَصًا رَسُولُ

اے رسول اللہ کے اور اس آگ دوزخ سے خلاصی دینے والے ہم کو رسول

صَاحِبُ الْمِحْرَابِ حَاشِرُ نَبِيِّ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاثُ

صاحب محراب کے جمع کرنے والے نبی اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّينَ

اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے افضل سب نبیوں سے

وَالصِّدِّيقِينَ مَحْبُوبًا رَسُولُ صَاحِبِ الْمِنْبَرِ

اور صدیقوں سے دوست ہمارے رسول صاحب منبر کے

خَطِيبُ رَحْمَةِ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

خطاب کرنے والے رحمت اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تجھے لئے رسول

اللَّهُ هُ مَبَشِّرُ نَارِ رَسُولُ صَاحِبِ الْبَيْتِ عَامِرُ

اللہ کے - خوشخبری دینے والے ہم کو رسول صاحب بیت اللہ کے آباد کرنے والے

كَعْبَةُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

کعبہ اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُپہ تیرے لے رسول اللہ کے

أَكْبَرُ نَبِيٍّ أَوْ رَسُولٍ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ عَالِمِ غَيْبِي

بزرگ ہمارے رسول صاحب معراج کے عالم غیبی

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُپہ تیرے لے رسول اللہ کے

نَبِيِّ آخِرِ الزَّمَانِ رَسُولِ صَاحِبِ إِجْتِهَادِ

نبی آخر زمانے کے رسول صاحب اجتہاد کے

مُنْتَقِمٌ مِّنْكُمْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

بدلہ لینے والے بزرگ کیسے گئے اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ هُوَ وَفِي الدِّينِ صَادِقًا رَسُولُ صَاحِبِ

اللہ کے۔ اور بیچ دین کے راست گو ہمارے رسول صاحب

الْقِيَامَةِ نَاطِقٌ شَفِيعٌ اللَّهُ هُوَ الْمُسْتَعَانُ

قیامت کے بولنے والے شفاعت کرنے والے اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ مُشَفِّعُ الْأُمَّةِ يُعِينُنَا

اُوپر تیرے اے رسول اللہ کے۔ شفاعت قبول کیے گئے جو اسطے اللہ کے دیکھنے والے

بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ صَاحِبِ النَّبُوَّةِ مُحَرَّمٌ

ہمارے ساتھ شفاعت کے رسول صاحب نبوت کے۔ حرمت کیے گئے

نَبِيِّ اللَّهِ هُوَ الْمُسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

نبی اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے

وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ سَابِقًا رَسُولُ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ

اور نبی رحمت کے اول ہمارے رسول صاحب دو جہانوں کے

حَرِيصٌ رَوْفُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

رغبت کرنے والے مہربان بندے اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول

اللَّهُ هَسْبُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَاهِي نَبِيِّكَ رَسُولِ صَاحِبِ

اللہ کے۔ سروار جن اور انسان کے۔ منع کرنے والے بدکاروں کو نبی ہمارے رسول صاحب

النِّعْمَةِ هَاشِمِيٌّ كَرَامَةٌ لِلَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

نعمت کے اولاد حضرت ہاشم کے بزرگ اللہ کے۔ فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے۔

مُقَرَّبًا رَسُوْلًا اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی مِائَةً اَلْفِ اَلْفِ

نزویک کرنے والے کو رسول طرف رحمت اللہ تعالیٰ کے لاکھ

صَلٰوةٍ وَسَلَامٍ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْمُصْطَفٰی وَحَبِيْبِهِ الْمُجْتَبٰی

دروو اور سلام اوپر رسول خدا کے جو برگزیدہ ہے اور حبیب خدا کے جو برگزیدہ ہے

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمِ اَبَا بَكْرٍ

دروو اللہ تعالیٰ کا ہو اس پر اور اس کی آل پر اور سلام اے بارخدا یا رحمت کر حضرت ابو بکر

ن النَّبِيِّ وَعُمَرَ النَّبِيِّ وَعُثْمَانَ الزُّبَيْرِيِّ وَعَلِيَّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ

کر تقی ہے اور حضرت عمر پر کہ پاک ہے اور حضرت عثمان پر کہ پاک ہے اور حضرت علیؑ و فاطمہؑ و علیؑ

اَسَدِ اللّٰهِ الْمُرْتَضٰی وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَدِيْجَةَ

کہ شیر خدا کا برگزیدہ ہے اور حضرت فاطمہ الزہراء پر اور حضرت خدیجہ

الْكُبْرٰى وَعَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ الْعُلْيَا وَالْحَسَنَ

بزرگ پر اور حضرت عائشہ صدیقہ بلند رتہ پر اور حضرت امام حسن

الرِّضٰى وَالْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ الْمُجْتَبٰى وَالشَّهَدَاءَ الْكُرْبَلَا

صاحب رضا پر اور حضرت امام حسین شہید برگزیدہ پر اور جمیع شہداء کربلا پر

وَالسَّعْدَ وَالسَّعِيدَ وَالطَّاحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

اور حضرت سعد اور حضرت سعید اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن

ابن عَوْفٍ وَأَبِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرِينَ

فرزند عوف پر اور حضرت ابو عبیدہ فرزند جراح پر دس اصحاب کہ جو طغیری دیے گئے ہیں

وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ

جنت کی اور تمام اصحاب کے اور تابعین پر اور خلیفوں راہنمائی کئے والوں پر

رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب پر اے بارخدا یا بخش مجھ کو

وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَاعْفِرْ

اور واسطے ماں باپ مجھے کے اور رحم کر ان دونوں پر جب پرورش کی انہوں نے میری طفولیت میں

اللَّهُمَّ سَلِّمْ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور بخش مجھ کو اے بارخدا یا واسطے تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے

الْأَجْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

زندوں کو ان سے اور مردوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اے بہت مہربان سب مہربانوں سے

طریقہ زکوٰۃ در دستغاث شریف

یہ ہے کہ ہر مہینہ قمری کے اول چار شنبہ کو شروع کرے۔ پہلے روز ایک بار، دوسرے روز دو بار۔ اسی طرح ایک ایک بار ہر روز زیادہ کرتا جائے تاکہ گیارہویں روز گیارہ بار پڑھے۔ پھر گھٹانا شروع کرے۔ یعنی بارہویں روز دس بار صلیٰ ہذا القیاس اکیسویں روز ایک مرتبہ پڑھ کر ختم کرے۔ بعد ازاں ہمیشہ نماز صبح سے اول یا بعد ایک مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کرے۔ ایام زکوٰۃ میں روزہ رکھے اور اشیا جلالی مثل گوشت پیاز لسن وغیرہ کی پرہیز کرے اور جماع بھی نہ کرے۔ پڑھنے کے وقت خوشبو پاس رکھے۔ کپڑا صاف و سفید پہنے اور خواندگی جگہ معین رکھے اور شروع کرنے سے پہلے اور بعد کھانا پکا کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوح پاک اور ارواحِ خواجگانِ چشتیہ خصوصاً اپنے پیر کی رُوح پاک کو ثواب پہنچا دے اور دونوں جہان کی سلامتی و عافیت کے لیے دُعا مانگے۔



سلسلہ چشتیہ نظامیہ

هَذِهِ سِلْسِلَةٌ چِشْتِيَّةٌ بِمِثْبِيَّةٍ نِظَامِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ

سب تعریف واسطے اللہ کے پالنے والا عالموں کا اور دنیا کی عاقبت کے واسطے پرہیزگاروں کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ

درود اور سلام اور رسول اکی کے نام ان کا محمد ہے اور ان کی آل پر

اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ سِلْسِلَتِيْ مِنْ

سب کے۔ اس کے بعد پس یہ سلسلہ میرا میرے

مَشَائِخِيْ فِيْ طَرِیْقَةِ الْچِشْتِيَّةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ

مشائخوں کا یہی طریقہ چشتیہ کے راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ سَيِّدِ

تعالیٰ ان سب سے اے بارخدا یا طفیل سردار

الْكُونَيْنِ وَرَسُولِ الثَّقَلَيْنِ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ

دو جہان کے اور رسول دو جہان کے حضرت محمد

نِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِلهِي

برگزیدہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ اُد پر انکے اور سلام اے بارخدا یا

بِحُرْمَتِ مَدِينَةِ الْعُلُومِ وَالْمَطَالِبِ اِمَامِ

بطفیل شہر علموں اور مقصودوں کے پیشوا

الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ اِمَامِ

مشرقوں اور مغربوں کے سردار مومنوں کے اور پیشوا

الْاَشْجَعِينَ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى

بہادوروں کے حضرت علی بیٹے ابی طالب کے بزرگ کرے اللہ تعالیٰ

وَجْهَهُ دِ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِقِ حَضْرَتِ

منہ ان کے کو۔ اے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَهٗ اَبِي النَّصْرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللهُ

خواجہ ابی النصر حسن بصری رضی اللہ

تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

تعالیٰ عنہ لے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ اَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ

حضرت خواجہ ابوالفضل عبدالواحد

بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهِ بِحُرْمَتِ

بیٹے زید کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے۔ لے بارخدا یا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ اَبِي الْفَيْضِ فَضِيلِ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ ابی الفیض فضیل

ابْنِ عِيَّاضٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهِ بِحُرْمَتِ

بیٹے عیاض کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ اَمَانَ الْاَرْضِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ

بزرگ بزرگوں کے امن دینے والے زمین کے حضرت خواجہ

سُلْطَانِ اِبْرَاهِيْمَ اَدُهُمِ الْبَلِيْغِي رَضِيَ اللهُ

سُلْطَانِ اِبْرَاهِيْمِ بِيْطِيْ اِدُهُمِ بَلِيْغِ كِي رِهِنِيْ وَاَلِي رَاضِي هُو اللّٰهُ

تَعَالَى عَنْهُ هِيَ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِحِ حَضْرَتِ

تَعَالَى اُنْ سِيْ اِيْ بَارِخْدَايَا بَطْفِيْلِ بَزْرِكِ بَزْرِكُوْنِ كِي حَضْرَتِ

خَوَاجَةِ سَيِّدِ الدِّينِ حَذِيْفَةَ الْمُرْعَشِي

خَوَاجِه سَيِّدِ الدِّيْنِ حَذِيْفِيْهِ مَرْعَشِي

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هِيَ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِحِ

رَاضِي هُو اللّٰهُ تَعَالَى اُنْ سِيْ اِيْ بَارِخْدَايَا بَطْفِيْلِ بَزْرِكِ بَزْرِكُوْنِ كِي

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ اَمِيْنِ الدِّينِ اَبِيْ هُبَيْرَةَ

حَضْرَتِ خَوَاجِه اَمِيْنِ الدِّيْنِ اَبِيْ هُبَيْرُو

الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هِيَ بِحُرْمَتِ

بَصْرِي كِي رَاضِي هُو اللّٰهُ تَعَالَى اُنْ سِيْ اِيْ بَارِخْدَايَا بَطْفِيْلِ

شَيْخِ الْمَشَاحِحِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مُمَشَادِ عَلُو الدِّيْنَوِيِّ

بَزْرِكِ بَزْرِكُوْنِ كِي حَضْرَتِ خَوَاجِه مُمَشَادِ عَلُو دِيْنَوِي

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

سِرِّ سِلْسِلُهُ چِشْتِيَانِ خَوَاجَهْ خَوَاجَكَانِ

سردار سلسلہ چشتیوں کے خواجہ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَهْ أَبِي اسْحَاقِ شَامِي چِشْتِي

حضرت خواجہ ابی اسحاق شام کے رہنے والے چشتی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ قَدْوَةِ الْحَقِّ وَالِدِ بْنِ حَضْرَتِ

بزرگوں کے برگزیدہ حق اور دین کے حضرت

خَوَاجَهْ أَبِي أَحْمَدِ بْنِ فَرِسَانَةَ الْچِشْتِي

خواجہ ابی احمد بیٹے فرسانہ کے چشتی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ

الْمَشَاحِبِ قُطْبِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

بزرگوں کے قطب حق اور دین کے حضرت خواجہ

أَبِي مُحَمَّدٍ بِنِ أَحْمَدَ حِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

ابی محمد بیٹے احمد چشتی کے راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هُ الْهِى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ حَضْرَتِ

ان سے۔ اے بارخدا یا بظیفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَةِ نَاصِرِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ أَبِي يُوسُفَ

خواجہ مدد دینے والے حق اور دین کے ابی یوسف

حِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى بِحُرْمَتِ

چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے۔ اے بارخدا یا بظیفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِبِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ قُطْبِ الْحَقِّ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ قطب حق

وَالِدَيْنِ مَوْدُودِ حِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

اور دین کے دوست رکھا گیا چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

اے بار خدایا بظہیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

مَخْدُومِ حَاجِي شَرِيفِ زُنْدَنِي رَضِيَ اللهُ

مخدوم حاجی شریف زندنی راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ مُفْتَدَاءً

تعالیٰ ان سے۔ اے بار خدایا بظہیل بزرگ بزرگوں کے پیشوا

أَهْلِ عِرْفَانٍ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ عُمَانَ

اہل عرفان کے حضرت خواجہ عثمان

هَرُونِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ

ہرونی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے۔ اے بار خدایا بظہیل

شَيْخِ الْمَشَاحِبِ قُطْبِ الْعَارِفِينَ سَنَدِ الْمُؤَدِّينَ

بزرگ بزرگوں کے قطب عارفوں کے نیکہ گاہ موحدین کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ بَزْرِكِ مُعِينِ الْحَقِّ وَالِدِينَ

حضرت خواجہ بزرگ مدد دینے والے حق اور دین کے

حَسَنٌ سَجِرِيٌّ ثُمَّ أَجْمِيرِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

حسن سجر کے رہنے والے پھر اجیر کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِيٌّ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ بَرُهَانَ

ان سے لے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے دلیل

چَشْيَانِ شَهِيدِ الْمَحَبَّةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

چشتیوں کی شہید محبت کے حضرت خواجہ

قُطْبِ الْحَقِّ وَالِدِ بْنِ بَخْتِيَارِ أَوْشِي كَاكِي

قطب حق اور دین کے بختیار اوشی کاکی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِيٌّ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَرِيْقِ الْمَحَبَّةِ إِمَامِ الْعَارِفِينَ سُلْطَانَ

جلنے والے محبت کے پیشوا مارفوں کے بادشاہ

الزَّاهِدِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ فَرِيدِ الْحَقِّ

زاہدوں کے حضرت خواجہ فرید حق

وَالدِّينِ مَسْعُودٍ كَنِعْ شَكْرًا لاجُودِهِ نِي رَضِي

اور دین کے نیک بخت کی گئے شکر کنج اچودہنی راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ

اللہ تعالیٰ اُن سے لے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ مُحِبِّ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ مَحْبُوبِ

بادشاہ عاشقوں کے رحمت جہانوں کے محبوب

إِلَهِي حَضْرَتُ خَوَاجَةِ نِظَامِ الْحَقِّ وَالدِّينِ

اللہ کے حضرت خواجہ انتظام کرنے والے حق اور دین کے

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بَدَاوَنِي بُخَارِي رَضِيَ اللَّهُ

محمد بیٹے احمد کے بداونی بخاری راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ مُسْتَعْرِقِ

تعالیٰ ان سے لے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے ڈوبے ہوئے

بَحْرِ الشُّهُودِ شَمْسِ الْعَارِفِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

دریاٹے شہود میں آفتاب عارفوں کے حضرت خواجہ

نَصِيرُ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ مُحَمَّدِ جِرَاحِ دَهْلَوِي

مددگار حق اور دین کے محمود چراغ دہلی کے رہنے والے

اَوْ دِهِي چِشْتِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اِلَهِي

اودھی چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ

لطیفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ

كَمَالِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ الْمَشْهُورِ بِعِلْمِهِ رَضِيَ

کمال حق اور دین کے مشہور مرد عالم راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا لطیفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ سِرَاجِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ

حضرت خواجہ شیخ سراج الدین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا لطیفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ عَلِمِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ رَضِيَ

حضرت خواجہ شیخ جاننے والے حق اور دین کے راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِيخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ مُحَمَّدٍ بِعُرْفِ شَيْخِ

حضرت خواجہ شیخ محمود مشہور شیخ

رَاجِنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

راجن کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِيخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ جَمَالِ الْحَقِّ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ حسن حق

وَالِدَيْنِ بِعُرْفِ شَيْخِ جَمِنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

اور دین کے مشہور شیخ جمین کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِيخِ قُطْبِ الْوَلِيَّاءِ شَيْخِ

اے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے قطب ولیوں کے شیخ

الْاَتْقِيَاءِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ حَسَنِ مُحَمَّدٍ

پرہیزگاروں کے حضرت خواجہ شیخ حسن محمد

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

مَظْهَرِ اللَّهِ النَّامِ الصَّمَدِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

جگہ ظاہر ہونے نور اللہ کامل بے پروا کے حضرت خواجہ

شَيْخِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

شیخ محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ فَرْدِ الْحَقِيقَةِ قُطْبِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ

بزرگ بزرگوں کے بیگانہ حقیقت کے قطب مدینہ بزرگ کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ بَحْيِ الْمَدِينِيِّ رَضِيَ اللهُ

حضرت خواجہ شیخ بھئی مدینے کے رہنے والے راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ الْمُتَخَلِّقِ

تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے خود پڑنے والا

بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَالْمُتَّصِفِ بِأَوْصَافِ اللَّهِ فَإِنِّي

ساتھ اخلاق اللہ کے اور صفت کیا ہوا ساتھ صفتوں اللہ کے فنا ہونے والا

فِي اللَّهِ بِأَقْبَى بِاللَّهِ حَضَرَتْ خَوَاجَةُ شَيْخِ كَلِيمٍ

یہ سچ ذات اللہ کے باقی رہنے والا ساتھ اللہ کے حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ

اللَّهُ جَهَانَ أَبَادِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

جہان آبادی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ سِرَاجِ الْوَاصِلِينَ

اے بار خدایا بظیفیل بزرگ بزرگوں کے چراغ بڑے ہوؤں کے

فَخِرُّ الْعَاشِقِينَ حَضَرَتْ خَوَاجَةُ شَيْخِ نِظَامِ الْحَقِّ

مخز عاشقوں کے حضرت خواجہ شیخ نظام الحق

وَالدِّينِ أَوْرُنْكَ أَبَادِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

والدین اورنگ آباد کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ فَخِرُّ الْوَالِدِينَ

ان سے اے بار خدایا بظیفیل بزرگ بزرگوں کے مخز پہلوں

وَالْآخِرِينَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ

اور پچھلوں کے دوست رکھنے والے حضرت کے حضرت خواجہ شیخ

مُحَمَّدِ الْحَقِّ وَالَّذِينَ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

مخزق اور دین کے محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ قُدْوَةِ السَّالِكِينَ

اے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے برگزیدہ سالکوں کے

شَمْسِ الْعَارِفِينَ غَرِيبِ نَوَازِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

آفتاب عارفوں کے غریب نواز حضرت خواجہ

شَيْخِ نُورِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي

شیخ نور محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے بادشاہ عاشقوں کے

بِرُهَانِ الْمُعْشُوقِينَ خَوَاجَةِ خَوَاجِكَانَ

دلیل معشوقوں کے بزرگ بزرگوں کے

الْقَائِمِ مَقَامِ عِبَادِيَّةِ قُطْبِ الزَّمَانِ حَضْرَتِ

قائم مقام عبودیت کے قطب زمانے کے حضرت

خَوَاجَهٗ شَيْخِ مُحَمَّدِ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

خواجہ شیخ محمد سلیمان راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ عِلْمِ الْحَقِّ

ان سے اے بار خدایا بظہیل بزرگ بزرگوں کے جاننے والے حق کے

وَالدِّينِ شَمْسِ الْعَارِفِينَ وَالْعَاشِقِينَ كَامِلٍ

اور دین کے آفتاب عارفوں کے اور عاشقوں کے کامل

وَمُكْمَلٍ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ شَيْخِ شَمْسِ الدِّينِ

اور کامل کیے گئے حضرت خواجہ شیخ شمس الدین

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بظہیل بزرگ

الْمَشَائِخِ قِدْوَةِ السَّالِكِينَ شَمْسِ الْعَارِفِينَ حَضْرَتِ

بزرگوں کے

شاہ جندوڈا اور چہہ شریف رضی اللہ تعالیٰ

عنه۔ الہی بحرمات شیخ المشائخ سلطان

العاشقین امام العارفين مَطْلُوبِ الطَّالِبِينَ

هَادِي الْمُضِلِّينَ مَحْبُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ

وَالْغُرَابِيِّ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ غِلَامِ دَسْتَكِيرِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى۔ الہی بحرمات شیخ المشائخ مُسْتَعْرِقِ بَحْرِ شَهْوَدِ

وَبَازِي الْأَشْهَبِ لِلْكَامِلِينَ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ

مَحْبُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الشَّرِيعَتِ

مَخْزَنِ الْحَقَائِقِ الْحَقِيقَتِ مُرَبِّي الْغُرَبَاءِ وَالْفُقَرَاءِ

مُجَاهِدِ الْمِلَّةِ وَالِدِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ

غِلَامِ جَبِيْبِ شَاهِ صَاحِبِ أَدَمِ اللَّهِ تَعَالَى بَرَكَاتِهِ

سِلْسِلہ قادریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ

سب تعریف واسطے اللہ کے پالنے والوں کا اور عاقبت کے پرہیزگاروں کے لیے

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ

اور درود اور سلام اوپر رسول اکے کہ نام ان کا محمد ہے اور ان کی آل کے

اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَهٰذِهِ سِلْسِلَتِیْ مِنْ

سب کے اس کے بعد پس یہ سلسلہ میرا میرے

مَشَآئِخِیْ فِی الطَّرِیْقَةِ الْقَادِرِیَّةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ

مشائخوں کا نیچے طریقہ قادریہ کے راضی ہو اللہ

تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ - اِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ

سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَرَسُولِ الثَّقَلَيْنِ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ

سردار دو جہان کے اور رسول دو جہان کے حضرت محمد

بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

برگزیدہ رحمت کرے اللہ اوپر ان کے اور سلام اے بارخدا یا بطفیل

مَدِينَةِ الْعُلُومِ وَالْمَطَالِبِ إِمَامِ الْمَشَارِقِ

شہر علموں کے اور مقصودوں کے پیشوا مشرقوں

وَالْمَغَارِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الْأَشْجَعِينَ

اور مغربوں کے سردار مومنوں کے اور پیشوا بہادروں کے

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ

حضرت علی بیٹے ابی طالب کے بزرگ کرے اللہ تعالیٰ منہ ان کے کو

إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حُسَيْنِ شَهِيدِ

اے بارخدا یا بطفیل سردار مومنوں کے حضرت حسین شہید

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بطفیل پیشوا

زَيْنِ الْعَابِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي

زین العابدین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا

بِحُرْمَتِ إِمَامِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ رَبِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

بطفیل پیشوا امام محمد باقر راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ

ان سے اے بار خدایا بطفیل امام جعفر صادق

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل امام

مُوسَى الْكَاطِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي

موسیٰ کاظم راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا

بِحُرْمَتِ إِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

بطفیل علی موسیٰ رضا راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ مَعْرُوفِ

ان سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ معروف

الْكَرْمِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

کرچی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا لطیف

شَيْخِ الْمَشَارِخِ شَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ سِرِّي سَقَطِي

بزرگ بزرگوں کے شیخ ابوالحسن سیری سقطی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا لطیف بزرگ بزرگوں کے

الْأَعْظَمِ حَضْرَتِ شَيْخِ جُنَيْدِ الْبَغْدَادِيِّ رَضِيَ

بڑے حضرت شیخ جنید بغداد کے رہنے والے راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ

اللہ تعالیٰ اُن سے اے بارخدا یا لطیف بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ الشُّبَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

شیخ ابی بکر محمد شبلی راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ شَيْخِ أَبِي

ان سے اے بارخدا یا لطیف بزرگ بزرگوں کے شیخ ابی

الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ

الفضل عبدالواحد بیٹے عبدالعزیز راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاطِيخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ أَبِي الْفَرَّحِ الطَّرْطُوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

شیخ ابی الفرح طرطوسی راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاطِيخِ شَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ

ان سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ ابی الحسن

عَلِيٍّ الْهَنْكَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي

علی ہنکار کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاطِيخِ شَيْخِ أَبِي سَعِيدٍ عَلِيِّ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ ابی سعید علی

وَالْمُبَارَكِ الْخَزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

مبارک مخزومی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِكُرْمَتِ

حسینی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَارِقِ شَيْخِ سَيِّدِ السَّادَاتِ سَيِّدِ

بزرگ بزرگوں کے شیخ سردار سرداروں کے سید

مُحَمَّدِ نُورِ بَخْشِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي

محمود نور بخش راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا

بِكُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِقِ حَضْرَتِ شَيْخِ مُحَمَّدِ عِيَاثِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت شیخ محمد عیث

نُورِ بَخْشِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِكُرْمَتِ

نور بخش راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَارِقِ حَضْرَتِ شَيْخِ مَظْهَرِ الصَّمَدِ

بزرگ بزرگوں کے حضرت شیخ جبکہ ظاہر ہونے نور اللہ کے

حَضْرَتِ شَيْخِ مُحَمَّدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حضرت شیخ محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بطفیل بزرگ

الْمَشَارِخِ شَيْخِ عَلَاءِ الدَّوْلَةِ سَمْنَانِي رَضِيَ اللهُ

بزرگوں کے شیخ علاء الدولہ سمنانی راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ شَيْخِ

تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

مَحْمُودِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

محمود راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَارِخِ شَيْخِ قُطْبِ الْأَقْطَابِ عَلِيٍّ

بزرگ بزرگوں کے شیخ قطب قطبوں کے علی

الْحَمْدُ إِنِّي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي

ہمدانی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ شَيْخِ إِسْحَاقِ خْتَلَانِي

بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ اسحاق ختلانی

عَنْهُ الْهَيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ

ان سے اے بارخدا یا بظیفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

نَجْمِ الدِّينِ الْكُبْرَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْهَيْ

نجم الدین کبری راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ مَجْدِ الدِّينِ بَعْدَادِي

بظیفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ مجد الدین بغدادی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْهَيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بظیفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ شَيْخِ رَضِيَ الدِّينِ الْمَعْرُوفِ بَعْلِي

بزرگوں کے شیخ رضی الدین المعروف ساتھ علی

لَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْهَيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ

لاا کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بظیفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ شَيْخِ نُورِ الدِّينِ الْمَعْرُوفِ بِالْكُبْرَى

بزرگوں کے شیخ نور الدین مشہور ساتھ کبری کے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ حَضْرَتِ شَيْخِ

اے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت شیخ

قُطْبِ رَبَّانِي غَوْثِ صَدَائِي مَجْبُوبِ سُبْحَانِي

قطب اللہ کے مقبول اللہ تعالیٰ کے محبوب رب العالمین کے

سُلْطَانِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ

بادشاہ سردار عبدالقادر جیلانی راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ شَيْخِ

تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

ضِيَاءِ الدِّينِ أَبِي النَّجِيبِ عَبْدِ الْقَاهِرِ سَهْرُودِي

ضیاء الدین ابی نجیب عبدالقاهر سہرودی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ الْأَنْدَلِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

شیخ عمار بن یاسر اندلسی راضی ہو اللہ تعالیٰ

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ فَرْدِ الْحَقِيقَةِ

اے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے یگانے حقیقت کے

قُطْبِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ شَيْخِ يَحْيَى الْمَدَنِيِّ

قطب مدینہ شریف کے شیخ یحییٰ مدنی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيَّاهُ بِحُرْمَتِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا بطفیل بزرگ

الْمَشَارِخِ فَاثَرِي فِي اللَّهِ حَضْرَتِ شَيْخِ كَلِيمِ اللَّهِ

بزرگوں کے فانی بیچ راستے اللہ کے حضرت شیخ کلیم اللہ

جَهَانَ أَبَادِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيَّاهُ

جہان آبادی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ سِرَاجِ الْوَاصِلِينَ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے چراغ واصلوں کے

فَخِرِ الْعَاشِقِينَ حَضْرَتِ شَيْخِ نِظَامِ الدِّينِ

مخیر عاشقوں کے حضرت شیخ نظام الدین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بظیفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ فَخِرًا لِأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ مُحِبِّ النَّبِيِّ

بزرگوں کے فخر پہلوں اور بچپلوں کے دوست دار نبی کے

حَضْرَتِ فَخْرِ الْحَقِّ وَالِدِ دِينِ مُحَمَّدٍ أَوْرَدْنَاكَ

حضرت فخر حق اور دین کے محمد اورنگ

أَبَادِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

آبادی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بظیفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ مُحِبِّ الْعَاشِقِينَ مَحْبُوبِ

بزرگ بزرگوں کے دوستدار عاشقوں کے محبوب

الْمَعشُوقِينَ مَظْهَرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ حَضْرَتِ

معشوقوں کے جگہ ظاہر ہونے خدا تعالیٰ کے حضرت

خَوَاجَةِ نُورِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

خواجہ نور محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ

اے بار خدایا بطفیل بزرگ بزرگوں کے بادشاہ عاشقوں کے

بُرْهَانَ الْمُعْشُوقِينَ الْقَائِمِ مُقَامِ الْعَبُودِيَّةِ

دلیل معشوقوں کے قائم مقام عبودیت کے

قُطْبِ الزَّمَانِ خَوَاجَةِ خَوَاجِكَانَ حَضْرَتِ

قطب زمانہ کے بزرگ بزرگوں کے حضرت

مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

محمد سلیمان رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَمْسِ الْفَلَكَ

اے بار خدایا بطفیل بزرگ بندگوں کے آفتاب آسمان کے

وَالْمِلَّةِ وَالِدِينَ حَضْرَتِ شَيْخِ شَمْسِ الدِّينِ

اور مذہب اور دین کے حضرت شیخ شمس الدین

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل بزرگ

الْمَشَاحِجُ قِدْوَةُ السَّالِكِينَ شَمْسِ الْعَارِفِينَ حَضْرَتُ

شَاهِ جَنْدِ وَدَّ اَوْ رُجْمِهِ شَرِيفِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ

إِمَامِ الْعَارِفِينَ مَطْلُوبِ الطَّالِبِينَ هَادِي الْمُضْلِينَ

مَجُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ وَالْعَرَائِبِ حَضْرَتِ

خَوَاجَةِ سَيِّدِ غَلَامِ دَسْتَكِيرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيَّاهُ

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ مُسْتَعْرِقِ بَحْرِ شَهُودِ وَبَارِي

الْأَشْهَابِ الْكَامِلِينَ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ مَجُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الشَّرِيعَتِ مَخْزَنِ الْحَقَائِقِ

الْحَقِيقَتِ مَرْبِي الْغُرَبَاءِ وَالْفُقَرَاءِ مُجَاهِدِ الْمَلَّتِ

وَالدِّينِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ غَلَامِ جَيْبِ شَاهِ صَاحِبِ

آدَمِ اللهِ تَعَالَى بِرَكَاتِهِ -

سلسلہ چشتیہ منظوم

اے خداوند اتو ذاتِ کبریا کے واسطے
 میں ہوا ہوں سخت زاراں بند محنت میں ایہ
 خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شعیخ
 فضل کر مجھ پر طفیلِ خواجہ ابن عیاض
 حضرت خواجہ حذیفہ کیلئے تاکِ رحم کر
 خواجہ مشاد کی خاطر میرا دل شاد کر
 خواجہ ابدال احمد بو محمد مقتدرے
 خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف
 والدے ہندوستان خواجہ معین الدین حسن
 کام کر شریٰ طفیلِ خواجہ گنج شکر
 دل کو روشن کر طفیلِ شہ نصیر الدین ہرآن
 دور کر ظلمت سراجِ دین و دنیا کے طفیل
 حضرت محمود راجن سردرد دنیا و دین
 رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
 کھولے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے
 شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے
 شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے
 پھر ہیر البصری صاحبِ ہدا کے واسطے
 شیخ بو اسحاق قطبِ چشتیا کے واسطے
 خواجہ ابو یوسف صاحبِ صفا کے واسطے
 خواجہ عثمان اہل اقداد کے واسطے
 شیخ قطب الدین قطب الاقیاء کے واسطے
 اور نظام الدین محبوبِ خدا کے واسطے
 اور کمال الدین کمالِ اصفیا کے واسطے
 اور علم الحق والدین علم ابدا کے واسطے
 اور جمال الدین من صاحبِ صفا کے واسطے

شہ حسن اور خواجہ شیخ محمد کے طفیل
 فضل کر مجھ پر طفیل شاہ کلیم اللہ ولی
 دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر الدین
 حضرت خواجہ سلیمان دو جہاں کے مددگار
 کر کریم مجھ پر طفیل خواجہ عالی جناب
 صاحب صدق و صفا عالی مراتب بجا ریا
 ذکر تیرا تیری اُلفت تیرا عرفان ہو نصیب
 طوطی بتیانِ حشتی بلبل باغ سیال
 فضل کے ہاتھوں سے مجھ کو میوہ معقد کھلا
 بخش دے اپنی محبت اور قطع کر ماسوائے

حضرت یحییٰ ندینی مقتدی کے واسطے
 اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے
 خواجہ نور محمد رہنا کے واسطے
 قبلہ حاجات کعبہ مدعا کے واسطے
 شیخ شمس الدین شمسِ حشتیا کے واسطے
 خواجہ شاہ جندوڈ انور الوری کے واسطے
 شیخ غلام دستگیر شاہ دل کے واسطے
 معدنِ حلم و حیا حبیبِ مصطفیٰ کے واسطے
 اس عمر فاروق عادل بے ریا کے واسطے
 برکت پیرانِ شجرہ حشتیا کے واسطے

سگِ درگاہ جیلاں شوچو خواہی قسرب ربانی
 کہ بر شیراں شرف وارد سگِ درگاہ جیلانی

مسیبعت عشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ هِ الرَّحْمٰنِ

سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سب کے جہانوں کا۔ مہربان

الرَّحِیْمِ هِ مَا لِكْ یَوْمِ الدِّیْنِ هِ اِیَّاكَ

نہایت رحم والا مالک قیامت کے دن کا خاص تیری

نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ هِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں چلا ہم کو راہ

المُسْتَقِیْمَ هِ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

سیدھی راہ ان کی جن پر تونے

عَلَيْهِمْ هِ غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

فضل کیا نہ جن پر غصے ہوا

وَلَا الضَّالِّينَ هُ سَات دَفْع

اور نہ گمراہوں کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هُ مَلِكِ النَّاسِ هُ

تو کہہ میں میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی

اِلٰهِ النَّاسِ هُ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

لوگوں کے معبود کی بُرائی سے اسکی جو سنکا رہے اور چھپ جاوے

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ

وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ هُ سَات دَفْع

جہنوں میں سے اور آدمیوں میں سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۗ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۗ

تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۗ وَمِنْ شَرِّ

اور بدی سے اندھیری کی جب سمٹ آوے اور بدی سے

النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۗ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

عورتوں کی جو گرہوں میں پھونکیں اور بدی سے بُرا چہننے والے کے

إِذَا حَسَدَهُ ۗ (سَبْعَ مَرَّاتٍ) یعنی سات دفعہ

جب لگے ہونے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۗ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۗ اللَّهُ الصَّمَدُ ۗ لَمْ يَلِدْ ۗ

تو کہہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کسی کو جنا

وَلَمْ يُولَدْ ۗ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۗ (سات بار)

اور نہ کسی سے جنا اور نہیں ہے اس کے جوڑا کرنی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ه

تو کہہ دے اے منکرو میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجو۔

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُهُ وَلَا اَنَا عٰبِدُ

اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں اور نہ مجھ کو پوجنا

مَا عٰبَدْتُمْ ه وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُهُ

جس کو تم نے پوجا اور نہ تم پوجنا جس کو میں پوجوں

لَكُمْ دِیْنِكُمْ وَاِلٰی دِیْنِ ه سَات مَرْتَب

تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحِیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں جیتا ہے سب کا تھامنے والا نہیں پکڑتی اس کو

سِنَةٌ وَلَا نُؤَمِّرُ لَهَا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اونگھ اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ

کون ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے جانتا ہے

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

جو خلق کے دروہے اور جو پیٹھ پیچھے ہے اور یہ نہیں گہر سکتے

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

اس کے علم میں سے کچھ گروہ جو چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

آسمان اور زمین کو اور ٹھکنا نہیں ان کے تھامنے سے

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

اور وہی ہے اُوپر سب سے بڑا۔ زور نہیں دین کی بات میں

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ

کھل چکی ہے صلاحیت اور بے راہی اب جو کوئی منکر ہو

بِالطَّاعُونَ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

مفند سے اور یقین لاوے اللہ پر اس نے پکڑی

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

گدہ مضبوط جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ هَٰ اللَّهُ وَرِى الَّذِينَ آمَنُوا

سنا اور جانتا ہے اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے اُجالے میں اور وہ جو

كَفَرُوا أُولَئِكَمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

مُکفر ہیں اُن کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں اُن کو

مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ

اُجالے سے اندھیروں میں وہ ہیں

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هَٰ سَاكِنَةٌ

دوزخ والے، وہ اسی میں رہ رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

پاک ہے اللہ کو اور سب تعریف واسطے اللہ کے اور نہیں کوئی معبود سوا

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

اللہ کے اور اللہ بزرگ و بزر ہے اور نہیں طاقت پھر نبی گناہوں کا اور نہیں طاقت عبادت کی

اَلْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ سَاثُ دَفْعِ

سوائے توہین اللہ بلند بزرگ کے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَرِزْنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ

گنتی اس چیز کی جو جانتا ہے اللہ اور وزن جو جانتا ہے اللہ

وَمِثْلُ مَا عَلِمَ اللّٰهُ تین بار تَبَرُّتٌ مِنْ حَوْلِي

اور پھر جو جانتا ہے اللہ بزار ہوا میں پھرنے سے اپنے کے

وَقُوَّتِي وَالْحِجَاتُ إِلَى حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ

اور قوت سے اور پناہ پکڑی میں نے طرف پھرنے کے اور قوت اللہ کی

فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرِي. ایک دفعہ

بیچ تمام اپنے کاموں کے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ

اے اللہ رحمت بھیج اوپر محمد بندے اپنے اور نبی اے

وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى

اور حبیب اپنے اور رسول اپنے نبی امی کے اور ان کی

آلِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سَائِدًا دَفْعًا

آل اور اصحاب پر اور برکت اور سلام بھیج۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا

اے اللہ بخش مجھ کو اور ماں باپ میرے کو اور رحم کر ان پر

كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَّاعْفِرْ لِلْمُذَلِّينَ جَمِيعًا

جیسا کہ پالا انہوں نے مجھ کو لڑکپن میں اور بخش اے اللہ واسطے تمام

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

مومنوں مردوں اور مومنوں عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ

زندہ ان میں سے اور مرے ہوئے کے اپنی رحمت کے ساتھ

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هُذَّ سَاثَ دَفْعِ

اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے۔

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا

اے اللہ اے رب کر میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی

وَأَجِدَا فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ

اور آہستگی سے دین اور دنیا اور آخرت میں وہ بات جو

لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلُ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا خُنُّ لَهٗ

اس کے لیے لائق ہے۔ اور نہ کرہائے ساتھ اے مولا ہائے وہ کام جو ہم لائق ہیں

أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ

تحقیق تو بخشنے والا متحمل سخی بزرگ

مَلِكٌ بَرٌّ رَوْفٌ رَحِيمٌ سَاتِ دَفْعُ

بادشاہ پاک مہربان رحم والا۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِرَأْفَتِكَ يَا نَافِعٌ وَمُرَافِعٌ

اے اللہ ہدایت کر مجھ کو مہربانی اپنی اے نفع دینے والے اور بندے دینے والے

تَوْفِنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّقْنِي بِالصَّالِحِينَ لِحَبْرَةِ دَفْعِ

فوت کر مجھ کو مسلمان اور ملا مجھ کو ساتھ نیکوں کے

يَا جَبَّارُ - اکیس دفعہ : تمام شد مسبعات عشر -

اے زبردست۔

هَذِهِ الْأَسْمَاءُ السَّبْعُ مِنْ أَوْرَادِ

ورود

سات

نام

الْشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ

جیلانی سے ہیں

عبدالقادر

شیخ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ تَوْجِهَاتِ

اللہ تعالیٰ ان سے ساتھ رجوع دل کے۔

ہست کلید درگنج حکیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہے کنجی دروازہ خزانہ خدا کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بچنے والا مہربان ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

سب تعریف واسطے اللہ پروردگار عالموں کے اور درجہ عاقبت واسطے پرہیزگاروں کے ہے

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ

آورد وود اور سلام اس کے رسول پر جو خاتم ہیں پیروں کے

وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَّيْبِهِ أَجْمَعِينَ هَٰذَا مَا بَعْدُ

اور ان کی آل اور اصحاب تماموں پر اس کے بعد

سیدنا مولانا حجۃ الحق الی الخلق شیخ عبدالقادر الجیلی قدس سرہ

سردار اور مولانا دلیل حق طرف خلقت کے شیخ عبدالقادر جیلانی پاک ہو عید اس کا

عَدَدِ اسْمَاءِ كَمَا أَخْضَرَتِ التَّرَامِ دَعْوَاتُهَا فَمُرُودُهُ وَبِرَائُ

شمار ناموں کے جو اس حضرت کے لازم پکڑنا ان دعوات کا فرمایا اور واسطے

ہر اسمے توجہ سے ساختہ کہ ان توجہ را بعد از صد بار یا پانصد

سب نام کے توجہ کیا کہ اس توجہ کے بعد ایک سو بار یا پانصد بار

بَارِ اسْمِ خَازِنَةِ شُودِ وَبَرَكَاتِ آلِ ظَاهِرِ وَبَاهِرِ سِتِّ -

نام پڑھا جاوے اور برکتیں اس کی ظاہر اور روشن ہیں

إِسْمِ أَوْلِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِكَ لَكُم بَارِ تَوْحِشِ انبِئَتْ

نام اول نہیں کوئی خدا لائق عبادت کے سوا اللہ کے ایک لاکھ دفعہ توجہ اس کی یہ ہے

إِلَهِي أَظْهَرُ عَلَى ظَاهِرِي سُلْطَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اے میرے اللہ ظاہر کر میرے ظاہر حال پر پادشاہی نہیں کوئی خدا لائق عبادت کے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَقُّ

سوائے اللہ کے نہیں کوئی خدا عبادت کے لائق سوائے اللہ کے نہیں کوئی لائق عبادت کے سوائے اللہ کے اور تحقیق

بَاطِنِي بِحَقَائِقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہ باطن میرے حقیقتوں کے ساتھ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے نہیں کوئی

إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَعْرِقُ فِيكَ ظَاهِرِي بِحَاطَةِ لَا إِلَهَ

عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور مشغول کر اپنی طرف ظاہر میرا ساتھ گھیر لینے کے نہیں کوئی عبادت کے

إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْفَظْنِي

لائق سوائے اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور نگاہ رکھ مجھ کو

اللَّهُمَّ بِكَ لَكَ فِي مَرَاتِبِ وَجُودِكَ وَشُهُودِكَ

اے اللہ ساتھ تیرے مرتبوں ذات تیری کے اور تیرے شاہد کے

حَتَّى لَا أَشْهَدَ غَيْرَ أَعْمَالِكَ وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِ

تاکہ نہ دیکھوں میں سوائے تیرے کاموں کے اور تیری صفتوں کے ساتھ ذات

الْحَقِّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حق کے وہ ذات کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ - اسْمُ ثَانِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِيَكْبَارُ تَوْجِش

مگر اللہ نام دوسرا اللہ اللہ اللہ ایک لاکھ دفعہ اسکی توجہ

اين است - يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ دُلَّنِي بِكَ عَلَيْكَ

یہ ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ راستہ بتلا مجھ کو اپنے پر

وَارْزُقْنِي الثُّبَاتَ عِنْدَ وَجُودِكَ مَا كُونُ

اور نصیب کر مجھ کو ثبات رہنا نزدیک ذات اپنی کے یہ کہ ہو جاؤں میں

مُنَادٍ بَابَيْنِ يَدَيْكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ إِلَهِي

ادب کرنے والا تیرے سامنے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے بار خدایا

بِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ ارْزُقْنِي حُبَّكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

ساتھ بزرگی اور شان تیری کے نصیب کر مجھے محبت اپنی اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ إِلَهِي اجْعَلْ قَلْبَ عَبْدِكَ الضَّعِيفَ

اے اللہ اے بار خدایا کر دل بندے اپنے ضعیف کا

مُظْهِرًا لِدَاتِكَ وَمَنْبِعًا لِآيَاتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

جگہ ظاہر ہونے کی واسطے ذات تیری کے اور جگہ پیدا ہونے آیات تیری کے اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ - اسْمُ ثَالِثُ حَيُّ حَيُّ حَيُّ يَكْلَهُ بَار

اے اللہ - نام تیسرا
اے زندہ اے زندہ اے زندہ ایک لاکھ دفعہ

تو ہمیشہ اینست - يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ أَحْيِي حَيَوَتِي

اس کی توجہ یہ ہے اے زندہ اے زندہ اے زندہ زندہ رکھ مجھ کو زندگی

طَيِّبَةً وَأَسْقِنِي مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ أَعْذَبَهُ

پاک اور پلا مجھ کو شراب محبت اپنی سے بہت میٹھا

وَأَطِيبَهُ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ إِلَهِي حَقِّقْ حَيَاتِي بِكَ

اور بہت صاف اے جی اے جی اے جی اے بارخدا یا ثابت کر زندگی میری ساتھ اپنے

يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ إِلَهِي أَظْهِرْ نُورَ حَيَاتِكَ فِي حَيَاتِي

اے جی اے جی اے جی اے بارخدا یا ظاہر کر نور زندگی اپنی کا میری زندگی میں

يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ إِلَهِي أَحْيِي رُوحِي حَيَوَةً أَبَدِيَّةً

اے جی اے جی اے جی اے اللہ زندہ کر روح میرا ساتھ جاتی قدیم کے

وَمَنْعِ سِرِّي بِسِرِّكَ فِي الْحَضْرَاتِ الشُّهُودِيَّةِ وَأَمْلَأْ

اور نفع مندر کہ میرا ساتھ بھید اپنے کے وقت حاضر ہونے قیامت کے اور سہ کر

قَلْبِي بِالْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ وَأَهْلِقْ لِسَانِي

دل میرا ساتھ معرفت خدائی کے اور ہلا زبان میری

بِالْعُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ يَا حَيُّ يَا حَيُّ -

ساتھ بندی نزدیکی کے اے حی اے حی اے حی

إِسْمٌ رَابِعٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ

نام چوتھا واحد واحد واحد

بِک لکھ بار توجہش این است۔ یا وَاَحِدٌ

ایک لاکھ دفعہ اس کی توجہ یہ ہے اے ایک

يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ اجْعَلْنِي مَوْحِدًا

اے ایک اے ایک کر مجھ کو توحید والوں سے

بِنُورِ وَحْدَانِيَّتِكَ مُؤَيَّدًا بِشُهُودِ

ساتھ نور وحدانیت اپنی کے اور مدد دیا گیا ساتھ دیکھنے

فَرْدَانِيَّتِكَ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

تنہائی تیری کے اے ایک اے ایک اے ایک

إِلٰهِي أَنْتَ الْمُتَّوَحِّدُ فِي ذَاتِكَ بِالْوَهْدِ بِرَبِّكَ

اے اللہ تو اکیلا ہے اپنی ذات میں ساتھ خدا کی اپنی کے

يَا وَاحِدُ يَا وَاحِدُ يَا وَاحِدُ -

اے اکیلے اے اکیلے اے اکیلے۔

إِسْمُ خَامِسُ عَزِيزٌ عَزِيزٌ عَزِيزٌ

نام پانچواں عزیز عزیز عزیز

یک لکھ بار تو ہمیشہ این است يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

ایک لکھ دفعہ اس کی توجہ یہ ہے اے عزیز اے عزیز

يَا عَزِيزُ اجْعَلْنِي بِعِزَّتِكَ مِنَ الْاَعَزِّينَ

اے عزیز کر مجھ کو ساتھ عزت اپنی کے عزت والوں سے

بَيْنَ يَدَيْكَ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

سامنے اپنے اے عزیز اے عزیز اے عزیز

اسْتَعْمِلْنِي بِاَعْمَالِ الْاَعَزِّينَ

کرا مجھ سے کام عزت والوں کے

مِنْ جَزِيلٍ هِبَاتِكَ مَا يُلْغِي إِلَى مَرْضِيَّاتِكَ

اپنی بڑی بخشش سے وہ جو پہنچائے مجھ کو طرف رضامندی تیری کے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ إِلَهِي هَبْ لِي

اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے اللہ بخش میرے لیے

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اپنے پاس سے رحمت تحقیق تو ہے بخشنے والا

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ إِلَهِي يَا وَهَّابُ

اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے اللہ اے بخشنے والے

الْأَسْرَارِ هَبْ لِي مِنْ أَسْرَارِكَ فَيْضًا تَجْعَلُنِي

بھیدوں کے بخش مجھ کو اپنے بھیدوں سے فیض کو کر مجھ کو

بِهِ دَائِمًا مَسْتَحْفِظًا لِمَوَاهِبِكَ يَا وَهَّابُ

ساتھ اس کے ہمیشہ حفاظت کرنے والا واسطے بخششوں تیری کے اے بخشنے والے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اللَّهُمَّ حَقِّقْنِي

اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے اللہ محقق کر مجھ کو

بِمَوَاهِبِ حَقِيقَةٍ حَقِيقَتِكَ يَا وَهَّابُ

ساتھ بخشوں ٹھیک حقیقت اپنی کے لئے بخشنے والے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي كُوْنِي سَاهِدًا

لے بخشنے والے لئے بخشنے والے لئے اللہ میرا ہونا گواہ ہے

عَلَىٰ بِاِلْفِتْقَارٍ اِلَىٰ غِنَاكَ الْمُطْلَقِ

مجھ پر محتاج ہونے کے تیری مطلق

اَلْكَامِلِ بِالذَّاتِ فَاْمَنْ عَلىٰ عَبْدِكَ

کامل ذاتی بے نیازی کا ذات کے ساتھ پس احسان کر اپنے بندے

الضَّعِيفِ بِعِنْيٍ اَكُوْنُ بِهِ غَنِيًّا مَغْنِيًّا

ضعیف پر بے پرواہی کے ساتھ ہو جاؤں میں اس سے غنی بے پروا

مَنْ شِئْتَ غِنَاهُ بِوَصْفِ الْفَقْرِ بَيْنَ

جسے تو چاہے بے پرواہی سے ساتھ صفت فقر کے سامنے

يَدَيْكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ

اپنے تو بے پروا ہے بخشنے والا لئے بخشنے والے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ - اِسْمُ سَابِعُ وَدُوْدُ

اے بختے والے اے بختے والے - نام ساتواں - دود

وَدُوْدُ وَدُوْدُ عِدَّةً اَلْبَارِئَةِ اِسْمُ

دود دود ہے گنتی اس کی ایک لاکھ دفعہ توجہ اس کی یہ ہے

يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ اجْعَلْ قَلْبِي

اے دوست اے دوست اے دوست کر میرے دل کو

وَاذِّكِّرْكَ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ اِلٰهِي

دوستدار واسطے اپنے دوست اے دوست اے دوست اے اللہ

اَعْطِنِي وَدِّ اِنِّي قَلُوْبِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ

بخش مجھ سے دوستی بچہ دلوں بندوں اپنے مومنوں کے

يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ اِلٰهِي اَكْفِنِي

اے دود اے دود اے دود اے اللہ! بند کر مجھ سے

شَرِّ مَنْ كِفَايَتُهُ بِيدِكَ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ

شرارت اس کی جس کا بند کرنا تیرے ہاتھ میں ہے اے دود اے دود اے دود

تمام الحمد ہفت اسماء

اسناد قصیدہ غوثیہ

یہ قصیدہ مبارک قطب ربانی غوث صمدانی حضرت شیخ عبدالقادر
جیلانی قدس سرہ کی طرف منسوب ہے۔ عوام اسے قصیدہ غوثیہ
اور خواص قصیدہ خمیریہ کہتے ہیں۔ آنحضرت نے حالت جذب و
استغراق میں اسے منظوم فرمایا ہے۔ خواص اس کے بہت ہیں۔
منجملہ ان کے یہ ہیں۔

۱، جو شخص گیارہ مرتبہ ہر روز اس کے پڑھنے پر مداومت کرے
گا خدائے تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا۔ اور خصلت
کے ہاں محبوب۔

۲۔ جس نے اس کو ورد بنا لیا قوت حافظہ اس کی اس حد تک بڑھ
جائے گی کہ جو پڑھے گا یا سنے گا کبھی نہیں بھولے گا۔
۳۔ اس کے پڑھنے والے کو عربیت میں کمال درجہ کا فہم پیدا ہو
جائے گا۔ اگرچہ بالکل نا آشنا ہو۔

۴۔ جو کوئی اس کو حاجت کے واسطے چالیس روز تک پڑھے
گا۔ ابھی چالیس روز پورے نہ ہوں گے کہ خدائے تعالیٰ
کے فضل سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔

۵۔ جس کسی نے اس کو اپنے پاس رکھا اور ہر روز تین مرتبہ پڑھا یا کسی سے سنا، اور ہر صبح حسن اعتقاد سے دیکھا۔ انشاء اللہ خواب میں حضرت کی نیابت و دیگر شرافت سے مشرف ہو گا۔ اور امراد و سلاطین کے نزدیک مغرزا اور مکرم ہو جائے گا۔

۶۔ غرضیکہ برکتیں اس کی بہت ہیں، جس کسی نے جس مراد کے واسطے حسن اعتقاد سے اس کو پڑھا ضرور مراد اس کی خدائے تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی۔

اور جب کبھی شروع کرے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور حضرت کے روح پاک کو ثواب بھیجے۔ بعد ازاں مرتبہ دعویٰ شریف مندرجہ ذیل پڑھ کر شروع کرے۔

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
محمد معدن الجود والکریم وبارک

وسلم

قصیدہ غوثیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

سَقَانِی الْحُبُّ كَأَسَاتِ الْوَصَالِی

عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے

فَقُلْتُ لِخَمْرَتِیْ نَحْوِیْ نَعَالِی

پس میں نے اپنی شراب کو کہا کہ میری طرف لوٹ آ

سَعَتْ وَمَشَتْ لِخَوِیْ فِیْ كُوْسِی

پیالوں میں (بھری ہوئی) اوہ شراب میری طرف دڑھی

فِهِمَّتْ بِسُكْرَتِیْ بَیْنَ الْمَوَالِی

پس میں اپنے اجباب کے درمیان نشہ شراب سے مست ہو گیا

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لَمُوَا

میں نے تمام اقطاب کو کہا کہ آپ بھی عزم کرو

بِحَاثِي وَادْخُلُوا اَنْتُمْ رِجَالِي

اور میرے رنگ میں رنگے جاؤ کیونکہ آپ بھی میرے رفقاء ہیں

وَهَيِّمُوا وَاَشْرَبُوا اَنْتُمْ جُنُودِي

خوب میرا کرپڑو کہ تم میرے لشکر ہی ہو

فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَاثِي مَلَايِي

کیونکہ ساقی قوم نے میرے لئے لبالب جام بھر رکھا ہے

شَرِبْتُمْ فَضَلْتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي

میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری کچی کچی شراب پی لی

وَلَا يَنْلُتُمْ عَلَوِي وَاِئْتِصَالِي

لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پاسکے

مَقَامِكُمْ اَعْلَى جَمْعًا وَّلٰكِنْ

اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے پھر بھی

مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِي

میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر اور ہمیشہ بلند رہے گا۔

أَنَا فِي حَضْرَتِ التَّقْرِيبِ وَحُدِيِّ

میں بارگاہ الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں

يُصَرِّفُنِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَدِ

اللہ تعالیٰ مجھے پھیرتا ہے اور خداوند تعالیٰ میرے لئے کافی ہے

أَنَا الْبَارِزِيُّ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ

جس طرح باز اشہب تمام پرندوں پر غالب ہے اسی طرح میں تمام

وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِي

مشائخ پر غالب ہوں باوجود مردانِ خدا میں سے کون جس کو سر عیسیٰ مرتبہ عطا کیا گیا ہے

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا

میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا

وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي

اور میں نے خداوند تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پالیا

كَسَانِي خِلْعَةً بِطَرَاكِ عَزِي

اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا جس پر عزت کے بیل بڑھتے تھے

وَتَوَجَّعَنِي بِتَيْجَانِ الْكَمَالِي

اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے

وَأَطَّلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا

وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي

اور مجھے عزت کا مار پہنایا اور جو کچھ میں نے اسکا مجھے عطا کیا

طَبُونِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقَّتْ

میرے نام کے ٹکے زمین آسمان میں بجائے مارتے ہیں

وَشَاوِلِي السَّعَادَةَ قَدْ بَدَأِي

اور نیک بختی کے تکمیلان و نقیب میرے لئے ظاہر ہو رہے ہیں

أَنَا الْحُسَيْنِيُّ وَالْمُخَدَّعُ مَقَامِي

میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور میرا مرتبہ (مخدع) خاص

وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرَّجْبَالِي

مقام ہے اور میرے قدم اولیاء کی گردنوں پر ہیں

وَوَلَّيْنِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا

اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قطبوں پر حاکم بنایا ہے

فَحُكْمِي نَائِدٌ فِي كُلِّ حَالٍ

پس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

میں نے خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا

كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ الْإِصْطَالِ

تو وہ سب مل کر رائی کے دانہ کے برابر تھیں

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ

اگر میں اپنے راز آگ پر

لَخِمِدَتْ وَأَنْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي

تو وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جائے اور اس کا نام و نشان نہ رہے

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ

اگر میں اپنے راز کو مردہ پر ڈالوں

لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمُؤَلَّى مَشَائِي

تو وہ نوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ

اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں

لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائیں کہ ان میں اور کچھ نہیں فرشتے

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارٍ

اگر میں اپنا راز یا توجہ دریاؤں پر ڈالوں

لَصَارَ الْكُلُّ غُورًا فِي الزَّوَالِ

تو تمام دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو جائے اور ان کا نام و نشان نہ رہے

وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ

مہینے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں

تَمُرُّوْا تَنْقِضِي إِلَّا أَتَانِي

بلایا خشک وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں

وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي

اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر لور

وَتُعَلِّمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَائِي

اطلاع دیتے ہیں (اے منکر کرامات) جھگڑے سے باز آؤ

بِلَدُّ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي

اللہ تعالیٰ کے تمام تہر میرا ملک ہیں اور ان پر میری حکومت ہے اور میرا وقت

وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي تَدْصَفَانِي

میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا یعنی میری روحانی حالت پہلے ہی مصفا تھی

مُرِيدِي لَا تَخَفُ وَاشِي فَايِي

اے میرے مرید! تو کسی جعل غور شریر سے نہ ڈر

عَزُومُ قَاتِلُ عِنْدَ الْقِتَالِي

کیونکہ میں لڑائی میں اولوالعزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں

مُرِيدِي لَا تَخَفُ اللَّهُ رَبِّي

اے میرے مرید! کسی سے مت ڈر اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے

عَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ الْمَعَالِي

اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پایا ہے

مُرِيدِي هِمَّ وَطِبُّ وَشَطْحٌ وَعَنِّي

اے میرے مرید! ہر شہناز عشقِ الہی ہو اور خوش رہ اور بے باک ہو اور خوشی کے گیت گائے

وَأَفْعَلُ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمُ عَالِي

اور جو چاہے کر کیونکہ میرا نام بلند ہے

وَكُلُّ وَدِيٍّ لَّهٗ قَدَمٌ وَرَأِيٌّ

ہر ایک ولی کیلئے ایک قدم یعنی مرتبہ ہے اور میں سرکارِ دو عالم

عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ہوں جو آسمان کمال کے بدر ہیں

أَنَا الْجَبَلِيُّ مُحَمَّدِيُّ الدِّينِ إِسْمِي

میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور محمدی الدین میرا نام ہے

وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجَبَالِي

اور میرے رفیقِ صداقت کے، نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسْمِي

اور عبد القادر میرا مشہور و معروف نام ہے

وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

اور میرے نانا پاک یعنی سرکار عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ دکھانے والے ہیں

تمام شد قصیدہ غوثیہ

غوثِ اعظم بن بے سرو سامان مدھے
قبلہ دین مدھے کعبۂ ایساں مدھے

○

نہے سیمائے تورانی نہے فرخندہ پستانی
علی سیرت حسن ثانی و محی الدین حبیلانی

○

دُعَاةُ حِرْبِ الْبَحْرِ

نسخہ صحیح

(از حضور پر نور قبلہ عالم صاحب قدس سرہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّمُ

اے بلند شان اے بزرگ اے بردبار اے ہمیشہ دانا

اَنْتَ رَبِّيْ وَعِلْمُكَ حَسْبِيْ فِنِعْمَ الرَّبُّ

آپ میرے پروردگار ہیں اور آپ کا علم مجھے کافی ہے پھر کیا ہی عمدہ پروردگار ہے

رَبِّيْ وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِيْ تَنْصُرُ مَنْ

اور کیا ہی اچھا کافی ہے میرا کافی آپ جس کو چاہیں نصرت فرماتے ہیں

تَشَاءُ وَاَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِیْمُ ۝ كَسَلْتُكَ

اور آپ ہی غالب مہربان ہیں ہم آپ سے عصمت

الْعِصْمَةُ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكِّنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ

(بچاؤ) کی درخواست کرتے ہیں تمام حرکات اور سکینات میں اور سب کلمات میں

وَالْإِرَادَاتِ وَالْمُخْطَرَاتِ مِنَ الظُّنُونِ وَالشُّكُوكِ

اور خواہشوں اور خطرات گمانوں سے اور شکوک

وَالأَوْهَامِ السَّائِرَةِ لِلْقُلُوبِ عَنْ مَطَالِعَةِ

اور ادہام سے جو دلوں کو مطالعہ عیب سے ڈھانپ

الْغُيُوبِ فَقَدْ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُّوا

جیتتی ہیں پھر یقیناً مومنین ابتلا میں ڈلے گئے ہیں اور بہت سخت

زُلْزَالًا شَدِيدًا ۗ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ

ہلائے گئے ہیں اور جلیسا منافقین

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ مَا وَعَدَنَا

اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رادگ ہے کہتے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور

اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ۖ فَثَبَّتْنَا عَلَى الْأُمُورِ

اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ کا وعدہ دیا ہے اس وقت ہمیں ثابت قدم رکھوا اور

یہ اس جگہ پر آیا ہے کہ اسباب سے آسمان کی طرف اشارہ کرے

یہ بھی دفعہ پہلے ہے

الشَّرِيعَةَ - وَالصُّرُنَا عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ وَسِحْرُ

شریعیہ پر اور ہمیں نصرت دیجیو اور ہر تمام مخلوقات کے اور یہ جو

لَنَا هَذَا الْبَحْرُ كَمَا سَحَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَى

سمندر ہے ہمارے تابع کر دے جیسا کہ سمندر موسیٰ علیہ السلام کے

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَحَّرْتَ النَّارَ لِابْرَاهِيمَ

تابع آپ نے کر دیا تھا اور جیسا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَحَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ

تابع کر دی تھی اور جیسا کہ پہاڑ اور لوہا

لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَحَّرْتَ الرِّيَّاحَ

داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور جیسے اڑھیاں (تیز ہوائیں)

وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ

اور تمام جن و شیطان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیئے

السَّلَامُ وَسَحَّرْتَ الْمُلُوكَ وَالْمَلَكُوتَ لِسَيِّدِنَا

تھے اور جیسے تمام ظاہری اور باطنی حکومت ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَخَّرْنَا

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر دی اور تابع کرے

كُلِّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَ

ہمارے تمام سمندر اپنے جو زمین میں ہیں اور آسمان میں اور

الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبِحْرِ الدُّنْيَا وَبِحْرِ

دنیاہری حکومت اور باطنی حکومت اور دنیا کے سمندر اور آخرت

الْآخِرَةِ وَسَخَّرْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْنٍ بِيَدِهِ

کے سمندر اور تابع کر دے ہمارے تمام اشیاء کے وہ ذات کہ جس کے

مَلَكُوتٍ كُلِّ شَيْءٍ كَهَيْئَةِ أَنْصُرْنَا

قبضہ میں تمام اشیاء ہیں کھینچیں ہمیں نصرت دیجئے

كَهَيْئَةِ أَنْصُرْنَا كَهَيْئَةِ أَنْصُرْنَا

کھینچیں ہمیں نصرت دیجئے کھینچیں ہمیں نصرت دیجئے

فَأَنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝ وَافْتَحْنَا فَاثَمَكَ

اس واسطے کہ آپ بہترین نصرت فرماؤں کے ہیں اور ہمارے حق میں نصرت کرے اس واسطے

یہ سب نصرت ہیں اس لیے اس مقام پر دونوں ہاتھ کے حضرت ابیہام تک ترتیب بند کر دے تاکہ اس مقام پر دونوں ہاتھ تکم ہو سکے۔

خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَاعْظُرْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ

کہ آپ بہترین فاتح کرنیوالوں کے ہیں اور ہمارے گناہ ڈھانپنے کے واسطے کہ آپ بہترین

الْغَافِرِينَ ۝ وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

گناہ چھپانے والوں کے ہیں۔ اور رحم فرما ہم پر اعلیٰ واسطے کہ آپ بہترین رحم فرمانے والوں کے ہیں

وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ وَاحْفَظْنَا

اور رزق دے ہمیں اس واسطے کہ آپ بہترین رازق ہیں اور ہمیں محفوظ رکھ

فَائِكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ ۝ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا

اس واسطے کہ آپ بہترین محفوظ رکھنے والوں کے ہیں۔ اور راہ دکھا ہمیں اور نجات

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

دے ہمیں ظالمین قوم سے اور بخش ہمارے اپنے پاس سے

رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَالشُّرْهَآ

بہت ہی اچھی ہوا موافق جیسے وہ اچھی ہوا موافق تیرے علم میں ہے اور پھیلا دے اس ہوا کو

عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ ۝ يَا وَهَّابُ

ہم پر اپنی رحمت خاص کے خزانوں سے لے دینے والے

۴۵ دیکھنا کہ ظالمین تین دفعہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے منہ پر پھیرنے والے اور شکر کھاتا رحمت

۴۵ اس مقام پر دو بار پڑھ کر کھولے گا اس مقام پر دو بار پڑھ کر کھولے گا اس مقام پر دو بار پڑھ کر کھولے گا

یہ ترتیب پڑھ کر آسان کی طرف دیکھو

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

اے دینے والے اے دینے والے اے دینے والے اے دینے والے اے دینے والے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

اے دینے والے اے دینے والے اے دینے والے اے دینے والے اے دینے والے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

اے دینے والے اے دینے والے اے دینے والے اور ہمیں اس ہوا کے باعث

حَمَلَ الْكِرَامَةَ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةَ

کشتی پر سوار کر مہربانی کی قسم کا سوار کرنا مع سلامت اور آرام کلی کے

فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا

دین میں اور دنیا میں اور ہوں آپ ہمارے ہمراہی ہمارے سفر میں

وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا وَالْهُسَّ عَلَى وَجْوِهِ

اور ہمارے خلیفہ ہمارے اہل و عیال میں۔ اور ہمارے دشمنوں کے منہ پر علس (چٹکار)

أَعْدَائِنَا وَأَمْسِكْهُمْ عَلَى مَكَائِهِمْ فَلَا

نازل کر اور ان کو ان کی جگہوں پر مشوں کر دے (بچ نہ دے) ہیں وہ

ستا اس مقام پر عین مرتبہ پر طہ بایاں ہاتھ زمین پر مارے۔

لَيَسْتَطِيعُونَ الْمَضَىٰ وَلَا الْمَجْبِيَّ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ

ہمارے ہاں نہ آسکیں اور نہ چل سکیں اور اگر ہم چاہیں تو

لَطَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى

ان کی آنکھوں پر طمس نازل کر دیں۔ پس وہ راہ سے بھٹک جائیں پس کہاں

يُبْصِرُونَ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ

دیکھیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہوں پر مسخ

مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا

کر دیں پس نہ چل سکیں اور نہ

يَرْجِعُونَ ۚ يٰسَٓ يٰسَٓ يٰسَٓ وَالْقُرْآنِ

واپس جا سکیں یسین یسین یسین تمہارے قرآن

الْحَكِيمِ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ عَلَىٰ

حکیم کی کہ یقیناً آپ مرسلین سے ہیں اور

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ

یاد رہے راہ پر ہیں تنزیل بہت غالب اور رحیم کا ہے

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ عُقُلُونَ

تاکہ آپ اس کی قوم کو ڈرائیں جن کے آباؤ اجداد نہیں ڈرائے گئے پس وہ بہت ہی فاعل ہیں

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا

حذا کی قسم یقیناً اکثر لوگوں پر ہمارا کہنا صادق اور ثابت ہو گیا ہے پس وہ کبھی ایمان

يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا

نہیں لائیں گے یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں بہت طوق ڈالے ہوئے ہیں

فِيهِ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ وَ

پس وہ طوق ٹھوڑیوں تک پہنچے ہیں پس تم سرادنچا ہی رکھتے ہیں۔ اور

جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

کر دیا ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا

پہنچے دیوار پس گھیرا دیا ہے ان کو ارد گرد پس وہ نہیں

يُبْصِرُونَ لِشَاهَتِ الْوَجُوهِ سَابِرًا وَعَنْتِ

دیکھیں گے بد نما ہو جو منہ دشمنوں کے اور ذلیل ہو جو

اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

جو بڑا غالب اور ہمیشہ دانا ہے گناہوں کے بخشنے والا اور توبہ

التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ

قبول کرنے والا سخت عذاب والا احسان والا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَرِيقَ الْمَصِيرِ بِسْمِ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود مگر وہی اسی کی طرف ہے بازگشت بسم اللہ

بَابُنَا تَبَارَكَ حِطَّانَا لَيْسَ سَقْنَا كَهَيْعَصِ

ہمارا دروازہ ہے تبارک ہماری دیواریں ہیں یسین ہماری چھت ہے کھینص

كِفَايَتُنَا حَمَّ عَسَىٰ حِمَايُنَا فَيَكْفِيكُمْ

ہمارا بچاؤ ہے حم عس ہماری حمایت یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ تجھے

اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ سِتْرُ

ان کے تر سے بچالینگے اور وہ ہمیشہ سمیع اور علیم ہے عرش کا پردہ

الْعَرْشِ مَسْبُورٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ

ہم پر ڈالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ

۳۳ کی کیفیت سے تا علیم تین مرتبہ پڑھ کر بترتیب قبول دے

فَاظْرَبُوا إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ لَا

ہماری طرف دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حول اور اس کی قوت سے ہم پر

يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ وَدَائِهِمْ

کوئی بھی قدرت نہ پائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے گرداگرد

مُحِيطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ

محیط میں بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں

مَحْفُوظٍ ۝ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ

پس اللہ تعالیٰ اچھا حافظ ہے اور وہ ارحم

الرَّاحِمِينَ ۝ ۳۰ بَارَأَ إِنَّ وَرِثَةَ اللَّهِ الَّتِي

الراحمین ہے یقیناً میرا کارساز اللہ ہے وہ جس نے

نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝

کتاب نازل فرمائی اور وہ صالحین کا بیڑا اٹھالے والا ہے

۳۰ مَرْتَبَةً فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے نہیں کوئی معبود مگر

هُوَ طَعْلِيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

دہی اسکا پر میں نے آسرا کیا ہے اور وہی عرش بڑے کا رب

الْعَظِيمِ ۝ بِرَبِّهِمُ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضُرُّ

ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ جو اس کے

مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

سنگت میں نہ کوئی شے زمین میں دکھ دے سکتی ہے اور نہ آسمان میں

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اور وہ سميع اور عليم ہے اور نہیں کوئی حول اور نہ کوئی قوت

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ

مگر اللہ کے ساتھ جو بلند اور بزرگ ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی

تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ ۝ وَإِلَيْهِ

نازل ہو جو اس کی بہترین خلق پر (سیدنا) محمد اور ان کی آل

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

اور ان کے اصحاب تمام پر

چهل کاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مژدعا اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمَا يَكْفِيكَ وَ اِكْفَاةً

کفایت کردہ آتراہد دروگارتو بسیار کفایت سے کند ترا از مصیبت

كُفَا فَمَا لَكُم مِّنْ لَّكَّ

ایچنین مصیبت کہ باز گشتن آن یا باز ایستادن مانند پوشیدہ شدن دست کہ باشد از لشکر دریم آمدہ

تِكْرُكَّرًا كَرًّا لُّكْرِي كَبِدٍ

دایچنین مصیبت کہ حملہ میکند حملہ کردنی مانند پھپھان رسن سبطلد سستی و مشقت

تَخِي مُشْكِيكَةً كَلِكْ لَكَّ

دایچنین مصیبت کہ مشابہت داد آن مصیبت بجا سلاح پوشش طیانیزہ شتریزا مانند شتر جوان مغربہ سخت گوش

كَفَاكَ مَا بِي كَفَاكَ الْكَافِ كُرْبَتَهُ

کفایت کند یا کفایت کناد ترا پر دروگارتو لے دل من از آنچه ہا من است از رنج و کلف آن

يَا كَوْكَبًا كُنْتَ تَحْكِي كَوْكَبَ الْفَلَكَ

اے ستارہ دل من کہ ستارہ ہستی ستارہ آسمان را

تمام شد چہلکاف

قَصِيدَةُ مُضَرِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرَ

اے رب! قبیلہ مضر میں سے جسے تو نے پسند فرمایا ہے اس پر درود بھیج

وَالْأَنْبِيَاءِ وَجَمِيعِ الرُّسُلِ مَا ذُكِرُوا

اور ان تمام انبیاء اور رسولوں پر بھی جن کا ذکر تو نے فرمایا ہے

وَصَلِّ رَبِّ عَلَى الْمَادِي وَشَيْعَتِهِ

اور اے رب! درود بھیج ہمارے مادی اور ان کی اولاد پر۔ اور

وَصَحْبِهِ مَنْ لَطِيَ الدِّينَ قَدْ نُشِرُوا

اور صحابہ کرام پر جنہوں نے دین کی مشکلات کو حل کر دیا

وَجَاهِدُوا مَعَهُ فِي اللَّهِ وَاجْتِهَدُوا

اور جنہوں نے حضور کے ساتھ عکس جہاد کیا اور دین میں پوری کوشش کی

وَهَاجِرُوا وَلَهُ أَوْ وَقَدْ نَصَرُوا

اور ہجرت کی اور انہیں جگہ دی اور ان کی امداد کی

وَيَتَّبِعُوا الْفَرِضَ وَالْمُسْتَوْنَ وَاخْتَصَمُوا

اور جنہوں نے فرائض اور مسلوں کو بیان فرمایا اور باقی تمام تعلقات کو

لِلَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ فَانْتَصَرُوا

منتقل کر دیا اور فرائض الہی سے تعلق پیدا کیا اور کامران ہوئے

أَزْكَى صَلَوَةٍ وَأَنْمَاهَا وَأَشْرَفَهَا

پاکیزہ ترین نمونہ اور بزرگترین درود ہو

يُعْطِرُ الْكُؤْنَ مِنْهَا نَشْرُهَا الْعِطْرُ

جس کی خوشبو کی ہر کائنات کو معطر کر دے

مَعْبُوقَةٌ بِعَبِيقِ الْمِسْكِ زَاكِيَةٌ

پاکیزہ۔ کستوری کی خوشبو سے لبریز ہو

مِنْ طَيْبِهَا أَرْجُ الرِّضْوَانَ يَنْتَشِرُ

جس کی خوشبو کی ہلک جنت رضوان میں پھیل جائے

عَدَّ الْحَصَى وَالْثَّرَى وَالرَّمْلَ سَبْعَمَا

درود شریف تعداد زمین کے سنگریزوں اور ریت کے دانوں آسمان

نَجْمِ السَّمَاءِ وَنَبَاتِ الْأَرْضِ وَالْمُدْرُ

کے ستاروں زمین کی انگوروں اور ڈھیلوں کے برابر ہو

وَعَدَّ وَزْنَ مَثَاقِيلِ الْجِبَالِ كَمَا

اور تعداد میں وہ پہاڑوں کے تمام فداات کے مطابق ہو

يَلِيهِ قَطْرُ جَمِيعِ الْمَاءِ وَالْمَطَرُ

جس کے پانی اور بارش کے تمام قطرات یک جا جمع ہوں

وَعَدَّ مَا حَوَتْ الْأَشْجَارُ مِنْ وَرَقٍ

اور درختوں کے پتوں کی تعداد کے مطابق

وَكُلِّ حَرْفٍ غَدَّيْشِي وَيُسْتَطْرُ

اور ہر حرف جو پڑھا جائے اور لکھا جائے اس کی تعداد کے موافق

وَالطَّيْرُ وَالْوَحْشِ وَالسَّمَاءِ مَعْنَعِهِ

اور پرندوں، جنگلی جانوروں، مچھلیوں، چوہا پاروں

يَلِيهِمُ الْجِنُّ وَالْأَمْلَاقُ وَالْبَشَرُ

جنکی تعداد کیساتھ جنوں فرشتوں اور انسانوں کی تعداد کے مطابق درود بھیج

وَالدَّرُّ وَالذَّرُّ وَالْمَلِّ مَعْ جَمْعِ الْحُبُوبِ كَذَا

زمین کے ذہات چوہنیوں مع تمام دانوں کے

وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْأَرِيَّاشِ وَلُوبَرُ

بال اُدن پرندوں کی پھاوریں کے ریشوں کی تعداد کے مطابق درود ہو

وَمَا أَحَاطَ بِهِ الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَمَا

اور علم محیط کے احاطہ کے مطابق ہو

جَرَى بِهِ الْقَلَمُ الْمَأْمُورُ وَالْقَدَرُ

اور قلم مامور اور تقدیر ازلی کے جاری ہونے کے مطابق ہو

وَعَدَّ نِعْمَاتِكَ الَّتِي مَنَنْتَ بِهَا

اور ان نعمتوں کی تعداد کے مطابق جو تو نے فراوانی فرمائی ہیں

عَلَى الْخَلَائِقِ مُذْكَانُوا وَمَذْحُشِرُ

اپنی مخلوق پر جب سے وہ پیدا ہوئی اور جب تک اس کا حشر کیا جائیگا

وَحَقِّ مِقْدَارِهِ السَّامِي الَّذِي شَرَفَتْ

اور حضور کے مراتب عالیہ کی تعداد کے موافق

بِهِ النَّبِيُّونَ وَالْأَمْلَاكُ وَالْبَشَرُ

جن سے انبیاء فرشتے اور انسان مشرف ہوئے

وَعَدَّ مَا كَانَ فِي الْأَكْوَانِ يَا سَنَدِي

اے میرے سہارے! ان تمام موجودات کے تعداد کے مطابق جو موجود ہیں

وَمَا يَكُونُ إِلَى أَنْ تُبْعَثَ الصُّورُ

اور وہ جو یوم بعثت تک موجود ہوں گے ان کی تعداد کے مطابق درود ہو

فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ يَطْرَفُونَ بِهَا

ہر آنکھ کی جھپک میں جب وہ آنکھ جھپکتے ہیں

أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَوْنظُرُوا

زمین اور آسمان والے یا جب وہ آنکھ بند کرتے ہیں درود بھیج

مِلَادُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ مَعَ جَبَلٍ

وسعت آسمان اور زمین مع پہاڑ

وَالْفُرْشِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَمَا حَصَرَ

اور فرش، عرش، کرسی اور جن کو وہ محیط ہیں انکی تعداد کی مطابقت درود بھیج

مَا أَعَدَّ اللَّهُ مَوْجُودًا وَأَوْجَدَ مَعَهُ

جس قدر اللہ تعالیٰ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود فرماتا ہے

دَوْمًا صَلَوَةٌ دَوَامًا لَيْسَ تَنْحَصِرُ

دائمی اور لاتعداد دہود شریف جاری رہے

تَسْتَفْرِقُ الْعَدَّ فِي جَمْعِ الدُّهُورِ كَمَا

جو تمام زمینوں میں انتہائی گنتی کا احاطہ کرے

تُحِيطُ بِالْحَدِّ لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ

جیسے تیری ذات محیط ہے اور کوئی جو اس سے باہر نہیں ہے

لَا غَايَةَ وَانْتِهَاءَ يَاعَظِيمُ لَهَا

اے با عظمت خدا! الیادرد و شریف ہو ۴ لامتناہی ہو

وَمَا لَهَا أَمَدٌ لِقِضَىٰ وَيُعْتَبَرُ

اور لامتناہیت کے لئے ہو اور قابل اعتبار ہو

مَعَ السَّلَامِ كَمَا قَدْ سَرَّ مِنْ عَدَدِ

وہ درود سلام کے ساتھ مندرجہ بالا تعداد کے ساتھ ہو

رَبِّي وَضَاعِفُهُمَا وَالْفُضْلُ مُنْتَشِرُ

اے میرے رب اس کو دو چند کر دے کیونکہ تیرا فضل عام ہے

كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَىٰ سَيِّدِي وَكَمَا

اے میرے سرکار! جیسے آپ کو پسند ہو اور جیسے آپ راضی ہوں

أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَنْتَ مُقْتَدِرُ

جیسے آپ نے ہمیں درود شریف کا حکم دیا ہے آپ ہی صاحب قدرت ہیں

وَعَدَّ اضْعَافَ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدِ

مذکورہ تعداد سے کئی گنا زیادہ تعداد میں درود بھیج

مَعَ ضَعْفٍ أَضْعَافِهِ يَأْمَنُ لَهُ الْقَدَرُ

اور پھر اس تعداد کا بھی کئی گنا زیادہ اے رفیع القدر مالک

وَكُلُّ ذَاكَ مَضْرُوبٌ بِحَقِّكَ فِي

اے مالک! تجھے اپنے حق کی قسم مذکورہ تعداد کو

أَنْفَاسِ خَلْقِكَ إِنْ قُلُوا وَإِنْ كَثُرُوا

اپنی کم بیش مخلوق کے سالوں کی تعداد سے ضربیے اور اتنی تعداد میں دہریج

يَا رَبِّ وَاعْفُرْ لَنَا بِهَا وَسَامِعِهَا

اے رب! تو بخندے اس درد و شریفی کے پڑھنے اور سننے والے کو

وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا أَيْنَ مَا حَضَرَ

اور تمام مسلمانوں کو وہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں

وَالِدِينَا وَأَهْلِينَا وَجِيرَتِنَا

ہمارے والدین ہمارے کنبے اور ہمارے ہمسایوں کو بخندے

فَكُنَّا سَيِّدِي لِلْعَفْوِ مُفْتَقِرًا

اے میرے سرکار! ہم سب معافی کے محتاج ہیں

وَقَدْ أَتَيْنَاذَكُوبًا لَأَعِدَّا لَهَا

اور میں اپنے لاتعداد گناہ سے کہ حاضر ہوا ہوں

لَكِنَّ عَفْوَكَ لَا يُبْقِي وَلَا يَذَرُ

لیکن حضور کی معافی کسی جزو گناہ کو ماتی نہیں چھوڑتی

يَا رَبِّ اعْظِمْنَا أَجْرًا وَمَغْفِرَةً

اے رب! ہمارے لئے اجر اور بخشش کو بڑھا دے

فَإِنَّ جُودَكَ بِحُرِّ لَيْسَ يَنْحَصِرُ

کیونکہ تیری سخاوت ایک غیر محصور سمندر ہے

وَكَنْ لَطِيفًا بِنَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ

اور ہر نازل ہونے والی مصیبت کے وقت تو ہم پر مہربان ہو جا

لُطْفًا جَمِيلًا بِهِ إِلَّا هُوَ أَلْتَحْسِرُ

اور ایسی مہربانی فرما کہ تمام خوف و ہراس اٹھ جائے

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَ الْمُخْتَارِ مَا طَلَعَتْ

اور اے رب! اپنی رحمت مختار جہاں پر بھیج

شَمْسُ النَّهَارِ وَمَا قَدْ شَعُشَعَ الْقَمَرُ

جب تک سورج چڑھتا رہے اور چاند روشن ہوتا رہے

ثُمَّ الرِّضَىٰ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ

اور تو راضی ہو ابو بکرؓ اور عمرؓ

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ مَا حَضَرَ

اور علیؓ اور عثمانؓ اور جو بھی حاضر ہو

ثُمَّ التَّحِيَّةُ وَالسَّلَامُ مَعَ الرِّضَىٰ

اور تیری رضا مندی کا دعا اور سلام ہو

عَنْ جَمِيعِ الْاَلِ وَالْاَزْوَاجِ مُطَهَّرٍ

تمام آل ہو اور ازواج مطہرات پر

صَلِّ وَسَلِّمْ رَبِّي دَائِمًا اَبَدًا

اے رب میرے! ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیج

عَلَيْهِ اَضْعَافَ مَا قَدْ مَرَّ يَنْتَشِرُ

ذکرہ تعداد سے کئی گنا زیادہ جو ہمیشہ پھیلنا رہے

وَالْأَلِیُّ وَالْأَصْحَابُ وَالْأَتْبَاعُ قَاطِبَةً

اور تمام آل اور اصحاب اور تابعین پر درود بھیج

وَإِخْتِمٌ بِمَخَیْرِ لَنَا إِذِیْنْتَهَى الْعِزُّ

اور جب ہماری عمر ختم ہو جائے تو خاتمہ بالخیر کر

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ پروردگار عزت والا پاک

يُصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو رب سائے جہانوں کا

مُنَاجَات

حضرت عوث الا عظیم شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی قدس سرہ
درمیان احتضام سیفی افتادہ است

<p>کنز خلاق جہاں بے محتاج ترم جز عیب نہ بنیم چو بخورد نگرم دام بفریب نفس و شیطان مغرور لیکن توریجی و کریمی و غفور کردم زگناہ آنچه نہ کرد است کسے</p>	<p>ستار تویی بپوش عیم بکرم دیر کہ نظر کنم بہ بینم ہنرے بیگانہ ز ا خلاصم و از تقوی دور سزاقدم غرور عصیان و فخور گفتم زیر قیاس بے ہودہ بے</p>
--	---

القصد ندیم اندرین ورطہ جہل
جز بطف و عنایت تو فریاد رسے

ترتیب ادائے وظائف و نوافل

بعد حمد و صلوٰۃ برادران طریقت و شاگردان و طالبان خاندان حضرت
 چشتیہ بہشتیہ نظامیہ کی خدمت میں اتماس ہے کہ خاکسار نے ترکیب حمد
 و وظائف کو بغرض سہولت و آسانی اردو زبان میں تحریر کر دیا ہے تاکہ آئندہ
 کسی صاحب کو اس کے زبانی سمجھنے اور حاصل کرنے میں دقت محسوس
 نہ ہو۔ گو اکثر نسخہ جات و وظائف مروج تو ہیں۔ لیکن چونکہ اہل علم کی جانب
 سے ہر ایک پر عدم صحت کا دھبہ عائد تھا۔ لہذا با کمال جانفشانی
 و عرق ریزی خاکسار نے ترکیب و وظائف مذکور خاص حضور اقدسؐ کی نظر
 فیض اثر سے اصلاح کر کے عام کے لئے طبع کرایا ہے۔ ناظرین سے امید
 ہے کہ خاکسار کو اس محنت کے صلہ میں دعائے خیر سے یاد فرمایا کریں گے۔

ترتیب نماز تہجد

جب نیند نئے بیدار ہو۔ طریق مسنون سے وضو کر کے دو رکعت

تختہ الوضو پڑھے پہلی رکعت میں بعد فاتحہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا
 أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِذِكْرِهِمْ فَسَوْءَ مَا
 يَكْتُمُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ لِيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
 رَحِيمًا پھر نماز تہجد بارہ رکعت چھ سلام سے پہلی رکعت میں فاتحہ
 کے بعد آیت الکرسی تا خَالِدُونَ دوسری میں فاتحہ کے بعد اَمَّا الرَّسُولُ
 مَّا آخِرُ سُورَةٍ تیسری میں بعد فاتحہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پوچھی میں دو مرتبہ
 علیٰ ہذا القیاس سورہ اخلاص ایک ایک مرتبہ زیادہ کرتا جائے تاکہ دسویں
 رکعت میں دس مرتبہ پڑھے پھر سلام کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا
 وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي حَتْمِي نُورًا وَفِي كَلْبِي نُورًا وَفِي
 عَصِي نُورًا وَفِي لَحْمِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي نُورًا
 وَفِي بَشَرِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا
 اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا

بعد ازاں مصلیٰ پر بیٹھ کر اسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
 ذَنْبٍ وَالتُّوبُ إِلَيْهِ

ایک ہزار یا پانچ سو مرتبہ پڑھے

ترتیب ذکر جہر بعد نماز تہجد

اول و آخر درود شریف۔ استغفار۔ کلمہ تجید ہر ایک تین تین مرتبہ پڑھے
 دوزالویا مربع بیٹھ کر دو سو مرتبہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ ساتویں مرتبہ
 مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهُ ضم کرتا جاٹے۔ بعد ازاں چار سو مرتبہ اِلَّا اللهُ
 اِلَّا اللهُ کی ضرب قلب صنوبری پر یعنی پارہ گوشت زیر پستان
 چپ لگاتا رہے۔ بعد ازاں چھ سو مرتبہ اللهُ اللهُ اللهُ کہے۔ ہمزہ اللهُ
 کی نافت پر اور اُ کو دماغ پر ختم کرے۔ نافت کو عالم سفلی اور دماغ کو
 عالم علوی سمجھے۔ یعنی دونوں عالم علوی اور سفلی میں اسی اکم پاک کے مستے یعنی
 ذات حق جل شانہ کے اسماء اور صفات کا ظہور ہے۔ مجموعہ بارہ سو
 پڑھنے کے بعد خاموش ہو کر قلب یعنی پارہ گوشت کو زبان سمجھ کر
 اللهُ اللهُ اللهُ خیال میں رکھے۔ اس ذکر میں تصور شیخ اپنے پر رکھے
 یعنی خیال میں اپنی شکل کو اتار کر شیخ کو چادر کی طرح اپنی ماہیت انسانی پر

اڑھ لے۔ گویا شیخ ہی ڈاکر ہے۔ جب حرکت مضغ محسوس ہو۔ تو حرکت کو معیار ذکر بنائے۔ پہلے حرکت منقصد شروع ہوگی۔ بعد ازاں رفتہ رفتہ حرکت متصل کے محسوس ہونے پر مستمتے میں استغراق و استہلاک ہوگا۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ شرائط ذکر مفصل طور پر شکول کلیبی میں ملاحظہ فرمائیں۔

بعد از نماز فجر آیت کرسی ایک مرتبہ اور آیت وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّمَّا كَانَتْ شَيْءٌ قَدْرًا ط تک ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص یمن مرتبہ اور درود شریف تین مرتبہ پڑھ کر آسمان کی جانب بھونکے بعد ازاں سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ مرتبہ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳ مرتبہ اللَّهُ أَكْبَرُ ۳۳ مرتبہ۔ پھر ایک مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حُدَّةً لِأَشْرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِسْمِ اللَّهِ الْخَيْرِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھ کر اسم یا دَقَابُ ۱۰ مرتبہ اور اسم یا دُودُ ۸۰ مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے۔

بعد ازاں سبغات عشر سورج نکلنے سے پہلے پڑھے۔ بعدہ اسماء الحسنیٰ پھر دعاء الکبیر ایک مرتبہ پڑھ کر اسبوع شریف ایک منزل پڑھے اور شروع منزل یکشنبہ سے

کرے۔ بعد اس کے درود مستغاث پڑھے۔ بعد
سلسلہ چشتیہ نظامیہ پڑھ کر درود کبریت
احمدی ایک مرتبہ پڑھے۔ اگر ہو سکے تو ۳ مرتبہ پڑھے۔ یعنی
نماز فجر ظہر و عشاء کے درمیان تمام کرے۔

زکوٰۃ

اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے۔ کہ پہلے منہ کو مسواک کے ساتھ
صاف کرے۔ اور وضو بطریق مسنون کر کے غسل کرے۔ دستار
بقدر پانچ ہاتھ سر پر باندھے۔ دو چادریں دوہری یا ایک
بری بدن پر اوڑھے اور حجامت از بقدر تین ہاتھ اپنے نیچے رکھے۔
اور یہ تینوں کپڑے نئے ہوں۔ پڑھنے کا مقام علیحدہ ہونا
چاہیے کہ نصف ماہ شعبان سے شروع کر کے تا آخر رمضان
شریف ختم کرے۔ زکوٰۃ کے دنوں میں روزہ رکھے۔ اور شروع
کرنے سے پہلے نماز دو گانہ تحیتہ الوضو ادا کرے اور ہر رکعت
پہلے بعد سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص ۳ مرتبہ پڑھے۔ بعد
سلام کے فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص ۷ مرتبہ پڑھ کر ثواب

اس کا بجناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحضور حضرت
 غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا دے۔ اور واسطے سنت محبت الہی
 شروع کرے۔ گیارہ گیارہ مرتبہ اکتالیس روزہ پڑھے۔ اور اول محل کے
 سجدہ کرے، ہر گاہ بکلمہ صَلَوَاتُ تَمْلَأُ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءَ پڑھے۔
 اس دعا کو سجدہ میں سر رکھ کر پڑھے۔ صَلَوَاتُ تَسْتَجِيبُ بِهَا
 دُعَاءَنَا وَتُرْكِي بِهَا نَفْسَنَا وَتُحْيِي بِهَا قُلُوبَنَا۔
 محل دوم۔ وَحَلِّ بِهَا الْعُقَدَ وَتَفْرِجْ بِهَا الْكُرَبَ
 محل سوم۔ وَيَجِدِي بِهَا لَطْفَكَ فِي امْرِي وَاْمُورِي
 الْمُسْلِمِينَ۔ جس وقت گیارہ مرتبہ پورا کرے۔ بدرگاہ مجیب الدعوات
 ہاتھ اٹھا کر کہے۔ خداوند! مجھ کو برکت اس درود شریف کے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں قائم اور اس کی محبت نصیب کر اور
 مشاہدات ذات اپنی میں مشرف کر۔ بعد مزاعت دستار و چادر و
 جائے نماز تینوں کو کسی حجرہ یا دوسرے مکان میں محفوظ رکھے اشیاء
 جلدی مثل گوشت، مایہ، ودال مسر و تقوم و پیاز سے پرہیز کرے۔ بعد
 ادائے زکوٰۃ حلویا یا شیرینی درویشوں میں تقسیم کرے۔ اور اسی طرح
 دوسری زکوٰۃ میں اکیس مرتبہ روز سترہ پڑھ کر تمام کرے۔ اور تیسری
 زکوٰۃ میں مع شرائط مذکورہ چھل و یکبار و وظیفہ تا بر روز تا اکتالیس

روز تمام کرے۔

نوافل اشراق

- ۱۔ دو رکعت نماز شکر اللہ۔ پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ ایک بار
آیتہ الکرسی تا خالِدٌ وَنُكْرٌ دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ
اَمِّنَ الرَّسُوْلُ تا آخر رکوع۔
- ۲۔ دو رکعت نماز استعاذہ۔ پہلی رکعت میں بعد سورہ
فاتحہ ایک بار سورہ فلق۔ دوسری رکعت میں بعد سورہ
فاتحہ ایک بار سورہ الناس۔
- ۳۔ دو رکعت نماز استخارہ۔ پہلی رکعت میں بعد سورہ
فاتحہ ایک بار سورہ الکافرون۔ دوسری رکعت میں بعد
سورہ فاتحہ میں بآرقل شریف۔
- ۴۔ دو رکعت نماز استحباب۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ
ایک بار سورہ الاعلیٰ دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ
پانچ بار سورہ قدر۔
- ۵۔ دو رکعت نماز شکر النہار۔ پہلی رکعت میں بعد

سورۃ فاتحہ پانچ بار قل شریف۔ دوسری رکعت میں بھی بعد

سورۃ فاتحہ پانچ بار قل شریف۔

۶۔ دو رکعت نماز حقوق الوالدین۔ پہلی رکعت میں بعد سورۃ

فاتحہ ایک بار آیتہ الکرسی تا خَالِدُونَ

اور تین بار قل شریف۔ دوسری رکعت میں بھی بعد سورۃ

فاتحہ ایک بار آیتہ الکرسی تا خَالِدُونَ اور

تین بار قل شریف

ترتیب نماز صلوة العاشقین

چار رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ یا اللہ

ایک سو مرتبہ۔ دوسری رکعت میں یا ارحمن تیسری میں یا رحیم

ایک ایک سو مرتبہ۔ چوتھی میں دو رکعت شریف سو مرتبہ پڑھے اور بعد

سلام یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ نُوْرًا فَاَوْزِسْ سُوْرًا نَادِرًا وَحُضُوْرًا نَا

وْرًا مَعْرِفَتَنَا وَزِدْ طَاعَتَنَا وَزِدْ نِعْمَتَنَا وَزِدْ مَحَبَّتَنَا

وَزِدْ عِشْقَنَا وَزِدْ شَوْقَنَا وَزِدْ وُقُوْرَنَا وَزِدْ عِلْمَنَا

يَا مَوْلَانَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

ترتیب نمازِ اوّلین بعد نمازِ شام

چھ رکعت تین سلام سے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص
تین مرتبہ۔ پھر دو رکعت نمازِ حفظ الایمان پہلی رکعت میں فاتحہ کے سورہ اخلاص، مرتبہ
اور سورہ فلق ایک مرتبہ۔ دوسری میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، مرتبہ اور سورہ
ناتس ایک مرتبہ۔ پھر سلام کے بعد سرسجدہ میں رکھ کر تین مرتبہ۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ شَيْبَتِي عَلَيَّ الْاِيْمَانُ کہے پھر سجدہ سے سر اٹھا
کر تین مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اور دعا مانگے کہ الہی ساتھ حرمت
ذات اپنی کے اور ساتھ حرمت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ساتھ حرمت خاندانِ پشت کے میرا ایمان سلامت
رکھ اور مجھے اپنی محبت اور شوق و ذوق عطا فرما

الہی! بحقِ بنی فاطمہ

کہ بر قولِ ایماں کنی خاتمہ

اگر دعوتِ تم رد کنی و رد قبول

من و دستِ ما ان آلِ رسول

ادعیہ نماز اشراق

دُعا شکر اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے ہو بختمے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ لَكَ لَا اَسْتَطِیْعُ دَفْعَ مَا

اے اللہ تحقیق صبح کی میں نے دھکے تیرے نہیں طاقت رکھتا میں روکنا اس چیز کا

اَكْرَهُ وَلَا اَمْلِكُ نَفْعَ مَا اَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ

کہ برا جانوں میں اور نہیں قدرت رکھتا ہوں میں فائدہ لینے کی اپنی سے جو امید رکھتا ہوں تیری رحمت کا

اَصْبَحْتُ مُرْتَمِنًا بِعَمَلِیْ وَاصْبَحَ اَمْرِیْ بِیَدِ

صبح کی میں نے گہری پڑا ہوا اپنے عمل میں اور صبح کی میرے کام نے عزیز کے

غَیْرِیْ فَلَا فَمِیْرًا فَقَدُمْنِیْ لَا تُسَبِّتْ بِنِیْ عَدُوِّیْ

قبضے میں پس نہیں کوئی فقیر بہت محتاج میرے سے نہ غم میں کر تو میرے دشمنوں کو

وَلَا تَسُوْنِيْ صِدِّيْقِيْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتِيْ فِيْ دِيْنِيْ

اور نہ تکلیف دے تو میرے دوستوں کو اور نہ کر مصیبت میرے دین میں

وَدُنْيَايَ وَلَا فِيْ الْآخِرَةِ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا

اور دنیا میں اور نہ آخرت میں اور نہ کر تو دنیا کو

اَكْبَرَ هَمِّيْ وَلَا مَبْلَغَ عَلَيَّ وَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ مَنْ

بڑا بھاری مقصود میرا اور نہ جگہ پہنچنے علم میرے کی اور نہ غالب کر دے مجھ پر وہ شخص

لَا يَرْحَمُنِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّ

جو مجھ پر رحم نہ کرے دنیا اور آخرت میں اے اللہ تحقیق میں

اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ الَّتِيْ تُزِيلُ بِهَا

پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے وہ گناہ کہ دور کر دے تو بسبب انکے نعمتوں کو

النِّعَمِ وَمِنَ الذُّنُوْبِ الَّتِيْ تُوَجِبُ بِهَا

اور ایسے گناہوں سے جو واجب کر دے تو بسبب ان کے عذاب

النِّقْمَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

کو ساتھ اپنی رحمت کے اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے۔

دُعا نماز استعاذہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَ

اے اللہ تحقیق میں بھلائی مانگتا ہوں تجھ سے

بِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْمَامَّةِ

اور سامۃ کلموں تیرے کاملہ کے شرارت خزندوں سے اور گزندوں سے

وَ اَعُوْذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ

اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے بزرگیہ نام بزرگ تیرے کے اور کلمات تیرے کاملہ کے

شَرِّ عِبَادِكَ وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ بِاسْمِكَ

شرارت تیرے بندوں کے اور شر عذاب تیرے سے اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے بزرگیہ نام

الْاَعْظَمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ

بزرگ جیے کے اور کلمات کاملہ تیرے کے شرارت ہر شیطان

مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَعُوذُ بِكَ

رانڈہ سے اور شرارت ہر سرکش عداوتی سے اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے

بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ

بذریعہ نام بزرگ ترسے کے اور کلمات کاملہ ترسے کے شرارت اپنی

مَا يَجْرِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ رَبِّي اللَّهُ الَّذِي

سے جو چلاتے ہیں اسکورات اور دن حقیقی میرا پروردگار اللہ ہے وہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

اللہ جو نہیں کوئی معبود سوا اس کے اسی پر توکل کی میں نے اور وہی ہے پروردگار عرش

الْعَظِيمِ طِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا بَصِيرًا

بزرگ کا اے اللہ تحقیق تو نے غالب کیا ہم پر ایسے دشمن کو کہ دیکھنے والا

بَيْنَنَا بَعِيُونَنَا هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَاهُمْ

دیکھتا ہے ہمکو ساتھ جلیوں ہمارے کے وہ اور اس کا قبیلہ اس مکان سے کہ نہیں دیکھتے ہم ان کو

اللَّهُمَّ فَأَيْسُهُ مِنَّا كَمَا أَيْسَتْهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ

اے اللہ پس ناامید کر دے تو اسکو ہم سے جیسا کہ ناامید کیا تو نے اس کو اپنی رحمت سے اور

وَقِنِّطُهُ مَنَا كَمَا قَنَطْتَهُ مِنْ عَفْوِكَ وَأَبْعِدْ

اور نا امید کر دے تو اس کو ہمارے جیسا کہ نا امید کیا تو نے اگرواپنی بخشش سے اور دوری ڈال دی

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا أَبْعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

درمیان ہمارا اور درمیان اُس کے جیسا کہ دوری ڈالی تو نے درمیان اس کے اور درمیان

جَنَّتِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَ

جنت اپنے کے تحقیق تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور

بِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ ۖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

ساتھ قبول کرنے دعاؤں کے لائق ہے اور نہیں پھرنا گناہوں سے اور نہ طاقت

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۖ

بدگئی کی مگر ساتھ اللہ بزرگ بلند کے

دُعَا نَمَازِ اسْتِخَارَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِذُّكَ

اے بار خدا یا تحقیق میں بھلائی مانگتا ہوں تجھ سے بزرگیہ علم تیرے کے اور طاقت مانگتا ہوں

بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

سے ساتھ قدرت تیری کے اور مانگتا ہوں میں تیرے فضل

الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ

بزرگ سے پس تحقیق تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں قدرت رکھتا اور تو جانتا

وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ط

مے میں نہیں جانتا اور تو بہت جانتے والا ہے شیدہ باتوں کا

اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ

اے اللہ تحقیق میں نہیں قدرت رکھتا اپنے نفس کے لئے نقصان دینے کی اور

لَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَحَيَوَةً وَلَا نُسُورًا

نہ نفع پہنچانے کی اور نہ موت دینے اور نہ زندگی بخشنے کی اور نہ پھر اٹھانے کی

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ

اے بار خدا یا اگر تو جانتا ہے تحقیق ہر کام

خَيْرِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ

اچھا ہے میرے لئے دین میں اور میرے جینے میں اور انجام کار میں

أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ

پس مقدر کر تو اس کو میرے لئے اور آسان کر دے تو اس کو سروساٹے پھر بکرت

لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ نَشْرُؤُ

ڈال دے مجھے اس میں اور اگر تو جانتا ہے تحقیق ہر کام بُرا ہے

لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

میرے لئے دین اور زندگی اور انجام کار میرے میں

فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ

پس پھیر دے تو اس کو مجھ سے اور پھیر دے تو مجھ کو اس سے اور مقدر کر دے

لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

تو واسطے میرے بھلائی کی جہاں ہو پھر راضی کر دے مجھ کو ساتھ اس کے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

ساتھ رحمت لہنی کے لئے بڑے مہربان سب مہربانوں سے

دُعا نماز استحباب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ

اے بارخدا یا کر دے تو دوستی اپنی بہت محبوب چیزوں کی طرف

إِلَىَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ

میری اور کر دے تم اپنا سخت ڈرانے والا بہ چیزوں سے

عِنْدِيَّ اللَّهُمَّ إِذَا أَقْرَدْتَ عِيُونَ

نزدیک میرے اے بارخدا یا جب ٹھنڈا کیا تو نے دنیا داروں کی آنکھوں

أَهْلِ الدُّنْيَا يَدِيَّ يَا هُمْ فَاقْرِ عَيْنِي

ساتھ مال دنیا کے پس ٹھنڈا کر دے تو میری آنکھوں کو

بِكَ وَبِعِبَادَتِكَ وَاقْطَعْ عَنِّي لِيذَائِكَ

ساتھ اپنے اور ساتھ عبادت رہنی کے اور توڑ ڈال مجھ سے لذتیں

الدُّنْيَا بِأُنْسِكَ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ

دنیا کی ساتھ محبت لہنی کے اور شوق پیدا کرنے کے اپنے بقا کی طرف

وَأَجْعَلُ طَاعَتَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنِّي يَا

اور کر دے اپنی عبادت کو ہر چیز میں میرے سے اے

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

صاحب بزرگی اور عزت کے اے بارئدایا نصیب کر دے مجھے

حُبِّكَ وَحُبِّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبِّ مَنْ

محبت اپنی اور محبت ان شخصیتوں کی جو دوست رکھا اہول تجھ کو اور محبت ان کی جو

يُحِبُّكَ وَحُبِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ

دوست رکھنے تجھ کو اور محبت ایسے عمل کی جو قریب کر دے مجھے طرف تیری محبت کے

وَأَجْعَلُ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْنَا

اور کر دے محبت لہنی کو بہت پیاری چیزوں سے طرف ہماری

مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ يَا ذَا الْجَلَالِ

ٹھنڈے پانی سے پیاسوں کے واسطے اے صاحب بزرگی

وَالْأَكْرَامِ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَاسِ

اور بڑی عزت والے لے بارخدا یا پلا تو مجھے ساتھ پیاسے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

شَرِبَةٍ لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ

ایسا پلانا کہ نہ ہوں پیاسا میں پیچھے اس کے بھی ساتھ رحمت اپنی کے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے بڑے مہربان سب مہربانوں کے

دُعَا نَمَازِ شُكْرِ النَّهَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ الصَّبَاحِ وَالْحَمْدُ

سب تعریفیں اللہ کو اوپر نیک گذرنے سے جمع کے اور سب تعریفیں

بِاللَّهِ عَلَىٰ حُسْنِ الْمَسَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيَّ

اللہ کو اوپر نیک ہونے شام کے اور سب تعریف اللہ کو اوپر

حُسْنِ الْمَبِيتِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

اچھا ہونے رات گزرنے کے اے بارخدا یا تیرے لئے ہے تعریف

حَمْدًا دَائِمًا مَّعَ دَوَامِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ

ہمیشہ ہونے والی ساتھ ہمیشہ ہونے تیرے کے اور تیرے واسطے

حَمْدًا خَالِدًا مَّعَ خُلُودِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ

سب تعریف ہے ایسی تعریف کہ ہمیشہ ہو ساتھ ہمیشگی تیری کے اور تیرا واسطے ہے تعریف

حَمْدًا لَا مُنْتَهَىٰ لَهَا دُونَ مَشِيَّتِكَ

کہ نہیں کوئی انتہا اس کی سوا تیرے ارادے کے

وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةٍ

اور تیرے واسطے ہے سب تعریف نزدیک ہر پھر کے آنکھ کے

عَيْنٍ وَ تَنْفَسٍ كُلِّ كَفْسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور نکالنے ہر سانس کے سب تعریف اللہ کو

حَمْدًا دَائِمًا عَدَدَ الْقَطْرَاتِ

تعریف ہمیشہ ہونیوالی گنتی قطروں

وَالنَّبَاتَاتِ وَالْحَجَرِ وَالشَّجَرِ وَالْأُورَاقِ

اور انگریزوں اور پھردوں اور درختوں اور پتوں کی

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَفَاةٌ وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ

سب تعریف ثابت ہے واسطے اللہ کے کہ پوری ہوا سکو اور درود نازل ہوا اور پھر

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایکے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

إِلَهِي بِرَحْمَتِكَ أَرْجُو فَادِّئِكُنِي إِلَى

اے اللہ ساتھ رحمت تیری کے امید رکھتا ہوں میں پس نہ سوچ مجھ کو طرہ

نَفْسِي وَلَا إِلَى غَيْرِكَ طَرْفَةً عَيْنٍ وَلَا

نفس میرے کے اور نہ طرف غیر اپنے کے پھر گئے آنکھ کا قدر اور نہ

أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي

اس سے کم اور سنوار دے میرے کاموں کو

كُلُّهُ بِدَائِلِهِ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا

تایمیں کو ساتھ برکت اسکے کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے ایک ہے تو نہیں کوئی

شَرِيكَ لَكَ وَتُبَّ عَلَيَّ وَاعْفِرْ لِي

شریک واسطے تیرے اور توبہ قبول کر میرا اور بخش دے مجھے

وَارْحَمْنِي أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

اور رحم کر مجھ پر تو بہت اچھا ہے سب مہربانوں سے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُنْتَهَى

اے اللہ واسطے تیرے ہے سب تعریف اور طرف تیری ہے شکایت

وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَالْأَحْوَالُ وَلَا

اور تو ہے مدد مانگا گیا اور نہیں پھرتا اور نہیں

قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

طاقت مگر ساتھ کو ذوق تیری کے



دُعَا نَمَازِ رَسُوْلِ حَقِّ الْوَالِدِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

يَا لَطِيْفُ اَلطُّفِ بِيْ وَبِوَالِدَيَّ فِيْ

اے مہربان بہر بانی کہ ساتھ میرے اہل ماں باپ میرے کے تمام

جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰ

حالات میں جیسا تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے

يَا عَلِيْمُ يَا قَدِيْرُ وَاغْفِرْ لِيْ

اے جاننے والے اے قدرت والے اور بخش دے مجھ کو

وَلِوَالِدَيَّ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

اور میرے ماں باپ کو تحقیق تو ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيْرٌ

قادر ہے

نَادِ عَلَيْهِ ^{عَنْهُ} ^{تَعَالَى} ^{الْبَدْرُ} ^{رَضِيَ}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بچتے والا مہربان ہے

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرِ الْعَجَبِ أَيُّبِ

نذاکر علی (علیہ السلام) کو جو عجایب نب کے مظہر ہیں

تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ

تو ان کو تمام مصائب میں مددگار ہائے گا

كُلُّهُمْ وَعَمِّ سَيَنْجِلُنِي بِبُؤْتِكَ

ہر نگر اور عم آپ کی بوت سے دور ہو جائیگا

يَا مُحَمَّدُ يَا بَيْتَكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ ط

اے محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور آپ کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

(۱) يَا سَيِّدُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ أَمْرًا لِلَّهِ

(۲) يَا شَيْخُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ فَضْلًا لِلَّهِ

(۳) يَا أَوْلِيَاءَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ أَمَانًا لِلَّهِ

(۴) يَا مَسْكِينُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ نُورًا لِلَّهِ

(۵) يَا غَوْثُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ قُطْبًا لِلَّهِ

(۶) يَا سُلْطَانَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ سَيْفًا لِلَّهِ

(۷) يَا خَوَاجَةَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ فَرْمَانًا لِلَّهِ

(۸) يَا مُحَمَّدُ وَمُحَمَّدٍ الدِّينِ بُرْهَانَ لِلَّهِ

(۹) يَا دَوَائِشَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ آيَاتٍ لِلَّهِ

(۱۰) يَا بَادِشَاهَةَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ غَوْثًا لِلَّهِ

(۱۱) يَا كَقِيرُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ مُشَاهِدًا لِلَّهِ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مُبَارَكًا كَثِيرًا كَثِيرًا ط

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

سلسلہ عالیہ قادریہ

منظومہ حضور والا جاہ پیر بند و ڈا شاہ صاحب قدس امرہ رحمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جام پیر از معرفت بخش از طفیل مصطفیٰ
 این مشکم بکشا بحرمت علی مشکل کشا
 اوسید الشہداء کل مسند نشین کربلا
 حرمت زین العباد و سرور کل اولیاء
 از صادقان از عاشقانم کن مراے قائما
 سردار موسیٰ الکاظم سید علی موسیٰ الرضا
 زندہ کن مردہ ولم پیر جنید مقتدا
 شیخ ابوالحسن طیبی علی ہنگاری صاحب ہدی
 تا ہمایوں بخت ہاشم چوں صمد و دوسرا
 بادشاہ شیخ درویش ولی مولائے ما
 کل مشایخ سر نہادہ زیر قدمش وائما
 لہ نظر فرما بن اے ال سید ذوالسنا

اے خداوند بحرمت پاک ذات کبریا
 دشمن شیطاں کافر گرگ بازی می کند
 از بزم شہزادہ حسین جام ز شربت لعل وہ
 زینتم از نور خود بخش اے منزہ پاک ذات
 حرمت محمد باقر و علی جعفر صادق امام
 و از سالکان و از و اصلا تم کن بحرمت سیدین
 حرمت محروف کرفی تری تقطی دستگیر
 حرمت شبلی و عبد الواحد طرطوس شیخ
 دمبدم نحوست دور کن پیر محمد سعید
 حرمت سلطان عالم سید محبوب رب
 خواجہ مخدوم غریب پیر جلیان غوث پاک
 کھن شو دس زرز نظرت کیمیاے غوث

بہر عبد القابہر و عمار بن یاسر وی
 بہر محب الدین بعلی لالا معطر و لم
 حرمت علاء الدولہ سمان محمود جی
 حرمت اسحاق ختلانی محمد نور بخش
 حرمت محمد معرفت بخش مراد ب حبیل
 در حضرت منظور کن بہر کلیم اللہ ولی
 عزت در دین بخش بہر خواجہ فخر دین
 از شراب ارغوانی جام لباب بخش کن
 حضرت خواجہ سلیمان چون علم کردہ بلند
 از پر تو شمس منور ظلمت را نور کن
 از طفیل پیر کامل حضرت شاہ جندوٹا
 یا الہی از پئے خواجہ غلام دستگیر
 کاسہ مقصود را بریز کن از حب خویش
 از شراب بخودی مخمور کن اے قادرا

شیخ نجم الدین کبری گریبان را رہنا
 بہر احمد خورقانی نور دین حتی پیشوا
 قطب ربانی علی ہمدانی شاہ الورا
 بہر محمد بخش جرم بخش اے رب العلا
 حرمت بخشی مدنی زندگی وہ دائم
 بہر نظام الدین مراد ہنسوئے خدا
 خواجہ نور محمد رہ نما کل اولیا
 تا شود صافی دلم بہر سلیمان اولیا
 شد مطیع خاتمش از عرش تا تحت الشری
 تار و وزنگ و لم یا ہم راہ سوئے خدا
 کن منور سینہ ما مالک بہر دوسرا
 رحم کن بر حال ما من عظیم من پر خطا
 از برائے حضرت ثالث حبیب مصطفیٰ
 بھر شجرہ خاندان قادریہ ذوالعلا

1717

1717

1717

1717